

نماز احناف و غیر مقلدین کا فرق مع مسائل

<https://t.me/tehqiqat>

علامہ محمد ریاض قادری محمدی سینی
فاضل دارالعلوم رحمانیہ و فاضل عربی (ملتان)



مؤلف

جامعہ انوارِ مدینہ محمدیہ سینیہ

پیشکش

نماز احناف

و غیر مقلدین کا فرق مع مسائل



مؤلف: علامہ محمد ریاض قادری ثم السنی

فاضل دارالعلوم رحمانیہ و فاضل عربی (ملتان)

ملنے کا پتہ:-

- ☆ مسجد جنازہ گاہ، آستانہ عالیہ محمدیہ سیفیہ، شاہ رکن عالم کالونی، ملتان۔
- ☆ مکتبہ سیفیہ، مرکزی آستانہ عالیہ سیفیہ، فقیر آباد شریف، لاہور۔
- ☆ مکتبہ محمدیہ سیفیہ، آستانہ عالیہ محمدیہ سیفیہ، راوی ریان شریف، لاہور۔

جملہ حقوق بحق مؤلف و ناشر محفوظ ہیں۔

نماز احناف و غیر مقلدین کا فرق

نام کتاب

علامہ محمد ریاض قادری محمدی سیفی

نام مؤلف

فاضل دہرا العلوم رحمانیہ و فاضل عربی ملتان

علامہ محمد ریاض

ناشر

0301-4988607

حضرت خواجہ مفتی عبدالولی صاحب

مصحفین

حضرت خواجہ مفتی عبدالباقی صاحب

حضرت علامہ محمد اسلم مدنی صاحب

رانا علی رضا

کیوزنگ

0315-7478578

قیمت: 170 روپے

عرض مؤلف

کافی عرصے سے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ غیر مقلدین حضرات اختلافی مسائل سے متعلق چند احادیث پیش کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ احادیث پر تو اہل حدیث ہی عمل کرتے ہیں۔ حنفی لوگ احادیث پر کہاں عمل کرتے ہیں بلکہ وہ تو احادیث کی مخالفت کرتے ہیں تو کچھ سادہ لوح مسلمان ان کے دعوے میں آجاتے ہیں اور اپنا عقیدہ و مسلک تک بدل لیتے ہیں تو لہذا شیخ طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر محمد عمران محمدی حنفی سیفی اعلیٰ اللہ مقامہ و اعاذہ اللہ من شر الاعداء کے حکم سے احقر نے یہ جملہ مواد علماء اہل سنت کی تحریرات سے لے کر ایک ایسی کتاب کو مرتب کیا جس میں ان احادیث و آثار کو جمع کیا ہے۔ جن پر احناف عمل کرتے ہیں اور غیر مقلدین جن سے بغاوت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں مکمل نماز حنفی مع مسائل اور قرآن و احادیث و آثار و اجماع امت کے موافق مسلک احناف کو بیان کیا گیا ہے جبکہ قرآن و احادیث و آثار و اجماع امت کے خلاف مسلک غیر مقلدین کو بیان کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس حقیر سی محنت کو بوسیلہ خاتم الانبیاء حبیب کبریٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبول فرما کر اپنے بندوں کیلئے نفع کا ذریعہ بنائے اور تارکین کی اصلاح و فلاح و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

نوٹ:

کتاب ہذا میں غیر مقلدین کے جتنے فتاویٰ جات نقل کئے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک فتویٰ میں بھی حدیث کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دعویٰ تو احادیث پر عمل کرنے کا ہے مگر دور دور تک احادیث سے ان کا تعلق نظر نہیں آتا۔

انتساب

احقر اپنی اس اولین جد و جہد کو عظیم روحانی پیشوا تاجدار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ مجدد عصر حاضر قیوم زماں امام الاولیاء والصلحاء والاتبیاء والاصفیاء حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر، پروردہ نگاہ مجدد، طبیب روحاں، عارف یزداں، شیخ المشائخ، شیخ العلماء والفقہاء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں محمد حنفی سیفی ماتریدی باریک اللہ عمرہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جن کے فیضان سے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔

مصنف

علامہ محمد ریاض

حصہ اول

مکمل نماز احناف مع مسائل

صفحہ نمبر

مضمون

الہاب

صفحہ نمبر	مضمون	الہاب
5-1	وضو، وضو کے فرائض، سنن، مستحبات	-1
7-6	وضو کی عینیں	-2
11-7	غسل کے فرائض، سنن، بکروہات	-3
14-11	تیمم کے فرائض و متفرق مسائل	-4
16-15	موزوں پر سح اور اس سے متعلق ضروری مسائل	-5
18-17	پانی کے مسائل	-6
21-18	نجاتیں اور ناپاکی اور ان کی اقسام و احکام و استنجا کا بیان	-7
25-22	بجگانہ نمازوں کے اوقات	-8
32-25	اذان کا بیان و طریقہ اور اس سے متعلق مسائل و متوہن کی فضیلت	-9
33	اقامت اور اس کے مسائل	-10
36-34	آداب مسجد	-11

38 - 37	اجکام سجدہ	-12-
49 - 39	نماز باجماعت کی فضیلت و ترک باجماعت پر وعید اور اس کے مسائل	-13-
50 - 49	نماز میں امام کو لقمہ دینا اور اس کے چند مسائل	-14-
60 - 50	نماز کے مسائل و شرائط و ارکان نماز مع واجبات و سنن و مستحبات و مفصلات و مکروہات نماز	-15-
62 - 61	فاتحہ کے بعد سورۃ اور اس کے چند ضروری مسائل	-16-
67 - 63	سجدہ سہو کے مسائل اور اس کا طریقہ مع ضروری مسائل	-17-
69 - 67	قضا نماز کی ادائیگی اور ان کا فدیہ	-18-
70 - 69	نماز توڑنے کے مسائل	-19-
72 - 70	نماز کی صحت کے لوازم	-20-
75 - 73	مسافر کی نماز اور اس کے مکمل مسائل	-21-
78 - 76	عورتوں اور بچوں کی نماز	-22-
80 - 78	نماز جمعہ کی فرضیت و تاکید اور شرائط جمعہ و خطبہ جمعہ کے احکام و آداب	-23-
86 - 81	نماز عید الفطر و اس دن مسنون کام اور اس کے ضروری مسائل	-24-
91 - 86	نماز عید الاضحیٰ اور اس کے ضروری مسائل	-25-
93 - 91	نماز تراویح اور اس کے ضروری مسائل	-26-
98 - 94	دنیا سے بے رغبتی کا علاج اور مرنے کے بعد کیا کیا جائے	-27-
101-98	غسل و کفن میت کا بیان	-28-

107-101	جنازہ و مکمل نماز جنازہ کا بیان	-29
109-107	نماز تہجد و اشراق و چاشت اور صلوٰۃ الاقوامین	-30

حصہ دوم

﴿ نماز احناف و غیر مقلدین کا فرق مع مسائل ﴾

صفحہ نمبر

مضمون

الہواب

صفحہ نمبر	مضمون	الہواب
114-110	غیر مقلدین حدیث پر عمل کرتے ہیں یا اس سے بغاوت۔	اہتمامیہ
118-115	تھوڑا پانی نجاست کے واقع ہونے سے ناپاک ہو جاتا ہے تھوڑی نجاست ہو یا زیادہ۔	-1
120-119	منی ناپاک ہے۔	-2
124-121	شراب ناپاک ہے۔	-3
127-125	مردار، خون، خنزیر سب ناپاک ہیں۔	-4
129-128	کتانا پاک ہے۔	-5
131-130	حلال و حرام سب جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔	-6
134-132	وضو کے فرائض، بگڑی پر سح گچ نہیں۔	-7
137-135	وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔	-8
139-138	گردن پر سح کرنا مستحب ہے۔	-9
141-140	بدن کے کسی حصے سے خون بہہ کر نکل پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔	-10
143-142	تے آنے اور نکسیر بننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔	-11

145-144	نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔	12-
148-146	اعضاء وضو میں سے ذرا سی خشک جگہ رہ گئی ہو وضو نہیں ہوگا۔	13-
150-149	پوشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ رو ہونا اور پیٹھ کرنا منع ہے۔	14-
152-151	تیمم میں دو ضربیں ہیں۔	15-
154-153	حیض کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت۔	16-
156-155	طہارت کے بغیر قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں۔	17-
160-157	کپڑوں اور بدن کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کیلئے شرط ہے۔	18-
163-161	جگہ کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔	19-
165-164	ستر کا چھپانا نماز کے صحیح ہونے کیلئے شرط ہے۔	20-
168-166	نجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھنا افضل ہے۔	21-
170-169	ظہر کی نماز گرمیوں میں تاخیر سے اور سردیوں میں جلدی پڑھنی چاہئے۔	22-
172-171	تین اوقات میں نماز پڑھنا کچھ وہ تحریمی ہے۔	23-
176-173	بلا غدر دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا جائز نہیں۔	24-
179-177	اقامت کے کلمات دو دفعہ کہے جائیں۔	25-
182-180	گھبر تحریر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔	26-
185-183	نماز میں دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا مسنون ہے۔	27-
188-186	نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہئے۔	28-
198-189	امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہئے۔	29-
214-199	خلفاء راشدین امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع کرتے تھے	30-

217-215	جس نے امام کو رکوع میں پالیا اس نے وہ رکعت پالی۔	31-
225-218	نماز میں آئین آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے۔	32-
237-226	نگینہ تجرید کے علاوہ رفع یدین نہیں کرنا چاہئے۔	33-
240-238	نماز میں جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہئے۔	34-
242-241	نماز میں بگڑنے سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر نہیں اٹھانا چاہئے۔	35-
246-243	دونوں قدموں میں ایک طرح بیٹھنا ہی مسنون اور توڑک مسنون نہیں۔	36-
249-247	پیلے قدموں میں تشہد سے آگے کچھ نہیں پڑھنا چاہئے۔	37-
253-250	فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر دعائے مانگا صحیح ہے۔	38-
257-254	عورت و مرد کی نماز ایک جیسی نہیں۔ بلکہ دونوں میں فرق ہے۔	39-
259-258	تالیخ کی اہمیت جائز نہیں۔	40-
261-260	امام بہترین شخص ہونا چاہئے۔	41-
264-262	جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اور پتہ چلے کہ امام بے وضو ہے تو امام اور مقتدی سب نماز کلاوا جائیں۔	42-
268-265	نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قرأت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔	43-
272-269	نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جان بوجھ کر کلام کرے یا بھولے سے۔	44-
277-273	وتر کی تین رکعتیں انکٹھی ایک سلام سے پڑھنی جائیں۔	45-
282-278	وتر میں دعائے قنوت سارے سال واجب ہے اور دعائے قنوت کے لئے نگینہ کہنا اور دونوں ہاتھ کاتوں تک اٹھانا مسنون ہے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی چاہئے۔	46-

285-283	فجر کی سنتیں فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے پر بھی پڑھنی جائز ہیں۔	-47
287-286	فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے۔	-48
289-288	مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مسنون نہیں ہے۔	-49
313-290	تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔	-50
316-314	جو نمازیں قضاء ہوگی ہوں بلا عذر یا کسی عذر کی وجہ سے ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔	-51
318-317	سجدہ سہو واجب ہے اور وہ سلام پھیر کر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد التحیات پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔	-52
320-319	مقتدی کو اگر سہو ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں۔	-53
322-321	سجدہ تلاوت کیلئے وضو شرط ہے بے وضو سجدہ تلاوت جائز نہیں۔	-54
326-323	کتنی مسافت پر قصر کرنی چاہئے۔	-55
328-327	مسافر جب تک کسی جگہ پندرہ دن کی اقامت کی نیت نہ کر لے اس وقت تک قصر کرے گا۔	-56
331-329	جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہے۔	-57
334-332	جمعہ کی دو اذانیں مسنون ہیں۔	-58
336-335	خطبہ جمعہ کے درمیان نماز پڑھنا اور بات چیت کرنا مکروہ ہے۔	-59
339-337	کسی دن عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو اس دن جمعہ کی نماز ساقط نہیں ہوتی اس کا پڑھنا فرض ہی رہتا ہے۔	-60
341-340	نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرنا چاہئے باقی میں نہیں۔	-61
343-342	فکر غیر مقلدین۔	-62
347-344	ماخذ و مراجع	-63

شیخ طریقت کے بارے میں چند معروضات

ایک ایسی شخصیت جو دنیاوی اور دینی علوم و معارف کا حسین امتزاج ہیں۔ جن کی زندگی شریعت مطہرہ کی مظہر ہے اور ہر ادا سنت مصطفیٰ ﷺ کی پیکر ہے۔ یہ کسی مکتب کی کرامت نہیں بلکہ فیضانِ نظر کی کامل و مکمل دلیل ہے۔ یقیناً یہ تو کامل مرشد امام الاولیاء و الاتقیاء والاصفیاء، طیب روحاں، عارف یزداں، شیخ المشائخ، شیخ العلماء و طریقت زہر شریعت حضرت میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ انوار نے ہی عشق و محبت، جذب و مستی اور حقیقت و معرفت کا ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ آج خود مرشد گرامی جس پہ نگاہ ڈالتے ہیں ان پر بھی وجد و حال اور شریعت و معرفت کا رنگ چڑھادیتے ہیں میری مراد سیدی و مرشدی شیخ طریقت، رہبر شریعت، صوفی و باصفاء، عاشق رسول ﷺ ڈاکٹر محمد عمران محمد سیفی اعلیٰ اللہ مقامہ ہیں۔ آپ نے ایف۔ ایس۔ سی (F.S.C) تک تعلیم کیڈٹ کالج حسن ابدال سے حاصل کی۔ اور ایم۔ بی۔ بی۔ ایس (M.B.B.S) نیشنل یکل کالج سے کیا۔ اور اب نیشنل ہسپتال ملتان میں ہی اپنے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چند اداروں کے بانی بھی ہیں۔

جہاں طلباء و طالبات کو دینی و عصری تعلیم ہمہ وقت دی جا رہی ہے۔ خود جمعۃ المبارک کی خطابت بھی فرماتے ہیں۔ بارگاہ النبی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت بوسیلہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ ﷺ آپ کے علم و عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو تاقیامت اس چشمہ فیض سے سیراب فرمائے (آمین بجاہ النبی ﷺ)

تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا
عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے

بے تابع تقدیر تو کافر ہے مسلمان
مومن ہے تو وہ اب بے تقدیر الہی

گر قبول افتدز ہے عز و شرف :- احقر محمد ریاض قادری محمد سیفی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب اول: وضو

احکام:

نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ قرآن شریف بھی با وضو ہو کر پڑھنا چاہئے۔ جیسا کہ وضو کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔

☆ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔**

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھولیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھولیا کرو۔“

وضو کے بارے میں چند فرامین مصطفیٰ بھی ملاحظہ فرمائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا۔

☆ **لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَخَذَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ۔**

ترجمہ: ”جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ وضو نہ

کرتے۔

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:
مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ۔

ترجمہ: ”جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے“

(رواہ احمد)

وضو کے فرائض:

وضو کے فرائض چار ہیں۔ ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔

- (1) چہرہ دھونا
- (2) کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا
- (3) چوتھائی حصہ سر کا مسح کرنا
- (4) دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا

نوٹ: ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ جبکہ تین مرتبہ دھونا سنت۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اعضائے وضو کو تین مرتبہ سے زیادہ ظلم و اسراف ہے۔

اگر چہ نہر کے کنارے ہی پر کیوں نہ ہو۔

(مشکوٰۃ شریف)

وضو کی سنتیں:

وضو کی سنتیں تیرہ ہیں۔ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے۔

- 1- وضو کی نیت کرنا۔
- 2- بسم اللہ (کھٹل) پڑھ کر وضو شروع کرنا جیسا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

☆ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

ترجمہ: جس شخص نے اللہ کا نام لئے بغیر وضو کیا، اس کا وضو (کامل) نہیں۔

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

- 3- پہلے تین بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔
- 4- سواک کرنا۔
- 5- تین بار کلی کرنا (غرضہ کرنا بھی سنت ہے) لیکن روزہ کی حالت میں نہ کیا جائے۔
- 6- تین بار ناک میں پانی ڈالنا لیکن روزہ کی حالت میں پانی سانس سے نہ کھینچیں۔
- 7- داڑھی کا خلال کرنا۔
- 8- ہاتھ، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔
- 9- ہر عضو کو تین بار دھونا۔
- 10- ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی غیر مستعمل بھیگا ہوا ہاتھ سر پر پھیرنا۔
- 11- کانوں کا مسح کرنا یعنی کانوں سے اندر مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہئے۔
- 12- وضو ترتیب وار کرنا۔
- 13- بے درپے وضو کرنا یعنی ایک عضو نہایت بونے سے پہلے دوسرا عضو دھولینا۔

وضو کے مستحبات

- وضو کے مستحبات پانچ ہیں۔
- 1- گردن کا مسح کرنا، دھونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت گردن پر پھیرنا۔
 - 2- وضو کے تمام کام خود کرنا کسی سے مدد نہ لینا۔
 - 3- قبلہ رو ہو کر وضو کرنا۔
 - 4- اونچی پاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔

نواقض وضو

- جن امور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔
- 1- پیشاب، پاخانہ کرنا، یا یہاں سے کسی اور چیز کا نکل جانا۔
 - 2- ریح (ہوا) خارج ہونا۔
 - 3- بدن کے کسی حصہ سے خون یا پیپ نکل کر بہ جانا۔

- 4- منہ بھر کے تے کرنا، بلغم سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
- 5- لیٹ کر یا سہارا لے کر سو جانا کھڑے کھڑے سو جانے یا سہارا لگائے بغیر سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
- 6- بیماری یا کسی اور وجہ سے بیہوش ہو جانا۔
- 7- دیوانہ (پانگل) ہو جانا۔
- 8- نماز میں تہقہ مار کر ہنستا۔

معذور کا وضو:

درج ذیل اشخاص معذور تصور کیے جائیں گے۔

- 1- ایسا زخم آجائے کہ خون رستا ہی رہے۔
- 2- نکسیر چھوٹے اور جاری رہے۔
- 3- بواسیر کا خون مسلسل آتا ہی رہے۔
- 4- ریح کا مرض ہو اور وہ بند نہ ہو۔
- 5- پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپکتے ہوں۔

ایسی ہی کوئی اور لاعلاج صورت ہو۔ تو ان لوگوں کو یہ رعایت حاصل ہے کہ جب تک معذوری کی یہ صورت باقی رہے۔ ہر نماز کے وقت ایک بار وضو کر لیا کریں۔ جب تک اس نماز کا وقت رہے گا تو ان کا وہ وضو کافی ہوگا۔ البتہ اس نماز کا وقت ختم ہو جانے پر یا وہ عذر ختم ہو جانے پر یا کسی دوسری وجہ سے وضو ٹوٹ جانے پر انہیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔

تحیۃ الوضو:

وضو کے بعد دو رکعت نفل تحیۃ الوضو کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کر کے حضور قلب (دل میں اللہ اور اس کی محبت و خشیت کا حاضری) کے ساتھ دو رکعت (اس طرح قلبی کیفیت سے) پڑھے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔

اسی طرح رسول اکرمؐ نے شب معراج جنت میں حضرت بلالؓ کے قدموں کی آواز سنی تو آپؐ نے پوچھا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ (ایسے معلوم ہوتا تھا) کہ تم میرے آنکھ کے چل رہے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ دو کام میرے معمولات میں ہیں۔ ایک تو ہمیشہ با وضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً دوسرا وضو کر لیتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وضو کرتا ہوں تو زور کعبت لفظ پڑھ لیتا ہوں۔

ان روایات سے تحیۃ الوضو کی اہمیت اور اجر و ثواب کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

نوٹ:

ان نوافل کی پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری سورۃ اخلاص

پڑھنا مستحب ہے۔

(ذرا مختار)

وضو کے فضائل:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے۔ تو پانی کے ساتھ اس کے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو اس کے پاؤں سے ہوئے تھے۔ کلی اور ناک کے پانی سے زبان و منہ اور ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں اور کانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔

یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف

ہو جاتا ہے۔

(مسلم، نسائی)

رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ جو شخص کامل وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے "فَتَحْتُ

لَهُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ" تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں

کے۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا:
مَنْ قَوَّضًا عَلَى طَهْرٍ كُتِبَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

ترجمہ:

”جس شخص نے با وضو ہونے کے باوجود (تازہ) وضو کیا اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔“

(ترمذی)

وضو کی دعائیں

پاتھ دھوتے وقت:

☆ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبِرَّكَهَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّومِ وَالْهَلَآكَةِ۔

”اے اللہ! میں تجھ سے بھلائی اور برکت مانگتا ہوں اور بد بختی اور ہلاکت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

کلی کرتے وقت:

☆ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔

”اے اللہ! میری مدد فرما قرآن مجید کی تلاوت اور اپنی عبادت کی خوبی پر۔“

ناک میں پانی ڈالتے وقت:

☆ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرْحِنِي رَائِحَةَ النَّارِ۔

”اے اللہ! مجھے جنت کی خوشبو سگھا دے اور نہ سگھا دوزخ کی بو۔“

منہ دھوتے وقت:

☆ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُهُ۔

”اے اللہ! میرا منہ روشن کرنا جس دن کچھ چیزے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔“

سز کا مسح کرتے وقت:

☆ اللَّهُمَّ أَظْلِمْنِي نَحْتِ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلُّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ۔

”اے اللہ! مجھے اس دن اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دینا جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔“

گردن کا مسح کرتے وقت:

☆ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ۔

”اے اللہ! میری گردن دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیجئے۔“

پاؤں دھوتے وقت:

☆ اللَّهُمَّ كَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ۔

”اے اللہ! مجھے پل صراط پر ثابت قدم رکھنا۔ جس دن قدم ڈگمگائیں گے۔“

غسل کے فرائض، سُحْن، مکر وہات:

قارئین کی سہولت کے لئے اب ہم فقہی مسائل بیان کرتے ہیں:

(الف) غسل کے فرائض:

(جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا)

☆ ٹھکی کرنا

☆ ناک میں پانی ڈالنا

☆ تمام بدن پر پانی بہانا

(ب) غسل کی سنتیں:

☆ دونوں ہاتھ دھونا

☆ استنجا کرنا، جہاں نجاست لگی ہو اُسے دھونا

☆ ناپاکی دور کرنے کی قیئت کرنا

☆ پہلے وضو کر لینا

☆ تمام بدن پر تین بار پانی بہانا

”جس شخص نے غسل جنابت میں ایک ہال بھر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی تو اس کو

دوزخ کا ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا“۔۔۔۔۔ ارشاد نبویؐ روایت کرنے کے بعد حضرت علیؑ نے

فرمایا۔ ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن بن گیا

ہوں“۔ (میں نے معمول بنا لیا ہے، ذرا بڑھے تو اُن کا صفایا کر دیا) یہ جملہ آپ نے تین بار

دہرایا۔

(سنن ابی داؤد، مسند احمد، مسند دارمی)

دانت:

☆ دانتوں کے درمیان چھالیہ وغیرہ کا ریزہ ہو تو اُسے خلال سے نکال کر رکھی کریں۔

☆ مٹی (دانتوں کی چمک کے لئے مصنوعی چیز) کی تہہ جی ہو تو اُسے بھی چھڑا کر رکھی

کریں۔

☆ مصنوعی دانتوں کو بھی نکال کر رکھی کرنا لازم ہے۔ اگر نکالنے سے تکلیف اور نقصان کا

اندیشہ ہو تو اجازت ہے۔

کان:

کان میں عطر وغیرہ کا پھایہ یا زوئی ہو تو اُس کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ مستورات خیال

رگیں کہ کان میں بالی وغیرہ ہو تو اسے خوب ہلا لیں تاکہ سوراخ میں پانی پہنچ جائے اور خشک نہ رہ جائے۔

ناک:

ناک میں بیڑی یا تمباکو لگا ہو تو اسے صاف کر کے ناک میں پانی ڈالیں، ورنہ غسل پورا نہ ہوگا۔

آنکھ:

آنکھ میں اگر چیز سڑکھ گیا ہو تو اس کو چھڑا کر آنکھ کو دھونا ضروری ہے۔

سر کے بال:

تمام بالوں کا بھگونا اور ان کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کسی خاتون کی چوٹی بندھی ہو تو اس کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن تمام بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا لازم ہے۔ اس کے بغیر غسل نہ ہوگا۔ اگر بیماری کے سبب سر میں پانی ڈالنا نقصان کرنے تو سر نہ دھونے کی اجازت ہے۔ لیکن صحت ہو جانے پر سر کا دھونا بھی ضروری ہے۔
غسل پردہ میں:

اس بارہ میں کسی تمہید کے بغیر ہم ایک حدیث کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت یعلیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کھلے میدان میں (برہنہ) غسل کر رہا تھا۔ آپ (یہ دیکھ کر) منبر پر چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ اللہ پاک خود ہدایت کرنے والا اور پردہ کرنے والا ہے۔ وہ (بندوں کی پردہ داری فرماتا ہے) وہ اپنے بندوں کے لئے بھی حیا داری اور پردہ داری کو ہی پسند کرتا ہے۔ لہذا:

☆ إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَبِئْزْ۔

”جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردہ کر لیا کرے“

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

☆ لَا تَقْرُءُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ -

حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس پاس کے ان لوگوں کے لئے جن کے دروازے ابتدائے اسلام میں مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے فرمایا کہ ان کا رخ مسجد کی طرف سے پھیر دو، صحن مسجد کے بجائے دوسری طرف کھول لو کیونکہ

فَأَنِّي لَا أَجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ -

مختصر یہ کہ غسل ان حالتوں میں فرض ہو جاتا ہے:

- 1- نسانی خواہش کے ساتھ اپنی جگہ سے منی نکلنے پر، خواہ سوتے ہوئے احتلام ہو یا جاگتے ہوئے جماع سے یا جماع کے بغیر ایسا ہو جائے۔
- 2- مرد کا سر مضو اندام نہانی میں داخل ہونے پر خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔
- 3- عورت کا حیض (ماہواری خون) بند ہونے پر۔
- 4- عورت کا نفاس (زچگی کا خون) بند ہونے پر۔

☆ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُفْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

”جب تم میں سے کوئی جمعہ کو آئے تو غسل کر لے“

☆ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى -

”اللہ کے رسول ﷺ عید الفطر اور عید قربان کے دن غسل فرمایا کرتے تھے“

(ابن ماجہ)

مستحب غسل:

- 1- حج اور عمرہ کے لئے احرام باندھنے سے قبل اور عرفات میں ٹویں دوالوجہ یعنی عرفہ کے

دن غسل کرنا مستحب ہے۔

- ۲۔ اسی طرح بالغ ہونے پر اور بے ہوشی اور جنون سے نکلنے پر غسل کرنا مستحب ہے۔
 - ۳۔ نیز چاند گرہن، سورج گرہن اور استسقا کی نمازوں کے لئے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔
- (ب) دوسری حدیث کی راویہ حضور اکرم ﷺ کی دوسری زوجہ مطہرہ اُمّ المؤمنین حضرت میمونہ ہیں، فرماتی ہیں:

”میں نے ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے غسل جنابت کے لئے پانی بھر کر آپ ﷺ کے پاس رکھ دیا۔ تو آپ ﷺ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دو یا تین بار دھویا، پھر ڈھلا ہوا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر مقام استنجا پر ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اس کو دھویا۔ پھر اپنا وہ بائیں ہاتھ زمین پر مارا اور خوب مٹی سے مٹا اور رگڑا۔ پھر وضو کیا۔ جیسے آپ ﷺ نماز کے لئے وضو فرماتے تھے۔ اس کے بعد تین مرتبہ پانی کے ٹپ بھر کر سر پر ڈالے۔ پھر سارے جسم کو دھویا۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر میں نے آپ ﷺ کو رومال دیا تو آپ ﷺ نے اس کو واپس کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ رومال استعمال کرنے کی بجائے آپ نے جسم مبارک سے پانی کو سونت دیا اور مچھاڑ دیا۔“

(صحیح بخاری و مسلم)

تتم

شدید مجبوری، پانی کی نایابی، یا بیماری وغیرہ کے خوف سے شریعت مقدسہ نے غسل اور وضو کے بجائے تتم کر لینے کی اجازت دی ہے۔ یہ اپنے بندوں پر اللہ کریم کا بڑا احسان ہے۔ اگر ایسے حال میں بلا غسل اور بدون وضو ہی اجازت ہوتی تو نہ صرف یہ کہ کمزور طبیعت انسان ترک طہارت کے عادی ہو جاتے بلکہ وضو اور غسل سے دربار الہی میں حاضری کی عظمت اور تقدس کا جو

اہتمام اور احساس ہوتا ہے وہ مجروح ہو جاتا۔

مٹی اور پتھر سے تیمم کرنے کے حکم میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ پورے کرۂ ارض کے دو ہی حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ کی سطح پانی ہے اور دوسرے کی مٹی، پتھر وغیرہ۔ اس اعتبار سے پانی اور مٹی میں خاص مناسبت ہے، پھر انسان کی تخلیق بھی پانی اور مٹی سے ہوئی ہے۔ مٹی میں ہی انسان کو جانا ہے۔ سمندر کے علاوہ مٹی ہی ایسی چیز ہے جو انسان ہر جگہ پا سکتا ہے۔ پھر مٹی کو ہاتھ لگا کر منہ پر پھیرنے میں عاجزی اور خاکساری کی ایک خاص شان ہے (باقی اللہ تعالیٰ اپنے اسرار کو خوب جانتا ہے)

تیمم کی اجازت:

تیمم کے بارے میں ارشاد خداوندی یہ ہے:

”اور اگر تم بیمار ہو (اور پانی کا استعمال مضر ہو) یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے

سے فارغ ہوا ہو، یا تم نے بیبیوں سے قربت کی ہو، اور تم کو پانی نہ ملے تو فُتِبَہُمْ

صَوْبًا طَيِّبًا“ پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو“ (یعنی مٹی پر دونوں ہاتھ ماکر)“ اپنے

چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا

ہے۔“

(النساء ۴۳:۴)

تیمم کب جائز ہے؟

(۱) جب پانی نہ ملے۔ یعنی ایک میل دُور ہو، یا کسی دشمن کے خوف سے یا کسی اور رکاوٹ

کے سبب پانی نہ لیا جاسکتا ہو۔ بے شک پانی قریب ہی موجود ہو لیکن اس کا حاصل کرنا خطرہ سے خالی نہ ہو۔ یا پانی موجود تو ہو لیکن تھوڑا اور اندیشہ ہو کہ وضو یا غسل میں خرچ کر لیا تو پیاس بھمانے کے لئے پانی میسر نہ ہوگا۔

(۲) پانی کے استعمال سے بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اندیشہ محض وہم کی بنا پر نہیں بلکہ گمان غالب ہو یا سوانح کی ہدایت ہو۔

مندرجہ ذیل بالا صورتوں میں وضو کی جگہ تیمم کی اجازت ہے، بلکہ غسل کے لیے بھی تیمم کیا جاسکتا ہے۔

تیمم کے فرائض:

تیمم کے تین فرائض ہیں:

- ۱۔ نیت کرنا۔
- ۲۔ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا۔
- ۳۔ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر گھبڑوں سمیت غلٹنا۔

کن چیزوں پر تیمم جائز ہے؟

- ☆ پاک مٹی، مٹی کے کچے یا پتے برتن جن پر روغن نہ لگا ہو۔
- ☆ ریت، چونا اور پتھر یا ملانی مٹی (گاچھی)۔
- ☆ مٹی کی پٹی یا کچی اینٹیں، یا مٹی، پتھر، چونے یا اینٹوں کی دیوار۔
- ☆ (ان پر گرد و غبار کا اثر ہونا ضروری نہیں، تیمم ہر صورت میں ہو جائے گا۔)

کن چیزوں پر تیمم جائز نہیں:

- ☆ لکڑی، لوہا، سونا، چاندی (بھات کی جملہ اقسام)۔

☆ شیشہ، گندم، بخو (غذ کی تمام اقسام)

☆ راکھ وغیرہ۔

غرض یہ کہ وہ تمام چیزیں جو آگ میں پھسل جاتی ہیں، یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، یا گل جاتی ہیں، ان پر تیمم جائز نہیں..... البتہ اگر ان پر اس قدر گرد اور غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے یا ان پر انگلی کا نشان پڑ جائے تو ان پر تیمم کرنا جائز ہوگا۔

تیمم کے متفرق مسائل:

۱۔ فرض نماز کی نیت سے تیمم کیا ہو، تو سنت و نوافل ادا کرنا، نماز جنازہ پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرنا جائز ہے..... لیکن قرآن مجید کی تلاوت یا اذان وغیرہ جیسے امور کے لئے تیمم کیا ہو تو نماز ادا کرنے کے لئے دوسرا تیمم کرنا ہوگا۔

۲۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس عذر کے سبب تیمم کی اجازت تھی، جب وہ عذر جاتا رہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً پانی نہ ہونے کے سبب تیمم کیا تھا اور پانی مل گیا، کسی بیماری کے سبب تیمم کیا تھا اور وہ مرض جاتا رہا تو تیمم جاتا رہا۔

۳۔ اگر ڈر ہو کہ وضو کرتے کرتے عید یا جنازہ کی نماز ختم ہو جائے گی تو نماز سے محروم رہ جانے کے بجائے تیمم کر لینا جائز ہے۔

تیمم کی نماز کا اعادہ:

اس بارہ میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت کردہ حدیث ملاحظہ کیجئے۔

فرماتے ہیں:

”دو صحابی سفر پر گئے۔ نماز کا وقت آ گیا اور ان کے ساتھ پانی نہیں تھا، اس لئے دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر لی۔ نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پانی مل گیا تو ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی اور دوسرے نے نماز کا اعادہ نہ کیا۔“

”دونوں جب حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا ذکر کیا۔ جن صاحب نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا:

”أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجَزَأْتُكَ صَلَوَاتِكَ“

”تم نے ٹھیک کیا، تم نے تیمم کر کے جو نماز پڑھی وہ ادا ہو گئی۔“

جن صاحب نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی تھی ان سے آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَكَ الْآخِرُ هَوَاتَيْنِ“

”تمہیں دو ہر اٹھاب ملے گا۔“

(سنن ابی داؤد۔ مسند داری)

اس صورت میں دوسری نماز نفل شمار ہوگی۔

موزوں پر مسح

کس قسم کے موزوں پر مسح جائز ہے؟

مندرجہ ذیل قسم کے موزوں پر مسح جائز ہے:

- ۱۔ چڑھ کے ایسے موزے جن سے ٹخنوں تک پاؤں چھپے رہیں۔
- ۲۔ اونٹنی سوتی ایسے موزے جن میں چڑھے کا ٹکڑا لگا ہوا ہو۔
- ۳۔ اونٹنی سوتی ایسے موٹے، گاڑھے اور مضبوط موزے جنہیں خالی پہن کر تین چار میل چل سکیں اور وہ نہ پھٹیں۔

مسح کرنے کا طریقہ:

ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر پاؤں کے پنجے کے اوپر رکھ کر انگلیوں کی طرف پاؤں کے اوپر کھینچیں۔ انگلیاں پوری رکھیں محض سرے رکھنا کافی نہیں۔ مسح پنجے کے اوپر کیا جاتا ہے۔ ٹکڑوں یا ایڑی کی طرف نہیں۔

مسح جائز ہونے کی شرائط:

- ☆ موزے وضو کی حالت میں پہنے گئے ہوں۔
- ☆ موزے تختوں سمیت دونوں پیروں میں پہنے ہوں۔
- ☆ اس قدر مضبوط ہوں کہ انہیں پہن کر تین چار میل چل سکیں اور وہ نہ پھٹیں۔
- ☆ تین چھوٹی انگلیوں سے زیادہ نہ پھٹے ہوں۔
- ☆ پانی جذب نہ کرتے ہوں۔

سح کی مدت:

☆ اپنے گھر اور قیام کی صورت میں ایک دن رات (چوبیس گھنٹوں) کے لئے سح کافی ہوگا۔

☆ سفر میں ہوں تو تین دن اور تین رات تک سح جائز ہوگا۔ سفر سے مراد تین منزل یا ۴۸ میل کا سفر ہے۔ مثلاً جمعہ کی صبح وضو کر کے موزے پہنے تو متیم ہونے کی صورت میں دوسرے دن ظہر کے وقت دوبارہ تازہ وضو کرنا ہوگا اور مسافر ہونے کی صورت میں سوموار کے دن ظہر تک سح چلے گا۔ موزے اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہ ہوگی۔

سح کب ٹوٹ جاتا ہے؟

جن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے سح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

- ☆ ان کے علاوہ سح کی مدت گزر جانے پر
- ☆ موزے اتار دینے پر
- ☆ موزے تین انگلیوں کے برابر پھٹ جانے پر۔

حرق ضروری مسائل:

- ☆ موزہ پہنے ہوئے اگر غسل کی حاجت ہو جائے تو موزہ اتار کر غسل کرنا ضروری ہوگا۔
- ☆ غسل کے لئے موزہ پر سح کرنا درست نہ ہوگا۔
- ☆ مسافر اگر موزے چپے ہوئے ہو اور مدت سفر ختم ہونے سے قبل گھر پہنچ جائے

موزے اتار کر وضو کرنا ضروری ہوگا۔

جبیرہ اور پٹی پر مسح:

- ☆ ٹوٹی ہوئی ہڈی اور موج پر لکڑی بندگی ہو یا پلاسٹر چڑھا ہو، اسی طرح زخم پر پٹی بندگی ہو یا مرہم کا پھاپہ رکھا ہو..... اور اس کے کھولنے یا اکھاڑنے سے نقصان کا اندیشہ ہو یا سخت تکلیف ہو تو اس پر وضو اور غسل میں مسح کر لینا کافی ہے۔
- ☆ اگر زخم کو پانی سے نقصان نہ ہو تو دھونا ضروری ہے۔
- ☆ اگر زخم پر مسح کرنا نقصان نہ کرے اور پٹی کا کھولنا یا پھاپہ کا اتارنا مضر نہ ہو تو زخم پر مسح کر لیں۔
- ☆ اگر پٹی کا کھولنا یا پھاپہ کا اتارنا باعث تکلیف اور موجب نقصان ہو تو کھولے بغیر اس پر مسح کر لینے کی اجازت ہے۔

پانی کے مسائل

۱۔ پانی کی اقسام:

پانی کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جاری..... بہتا ہو یا پانی مثلاً نہر، دریا، سمندر

(۲) بند..... ٹھہرا ہو یا پانی مثلاً تالاب، حوض وغیرہ۔

بند پانی کی دو صورتیں ہیں، ان دونوں کے احکام مختلف ہیں:

☆ قلیل..... تھوڑا

☆ کثیر..... زیادہ

یعنی ایسا حوض اور تالاب جو شرعی گز کے اعتبار سے دس گز لمبا دس گز چوڑا ہو (شرعی گز

مروجہ گز کی تقریباً نو گزہ کے برابر ہوتا ہے)

اگر چوڑائی کم ہو لیکن لمبائی زیادہ ہو اور مجموعی اعتبار سے سوگز شرمی کے برابر ہو اور اس کے ایک کنارہ کے پانی کو حرکت دینے سے دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے تو وہ بھی حوض میں شمار ہوگا۔

۲۔ جاری پانی کے احکام:

اگر جاری (پتے ہوئے رواں) پانی میں نجاست گرنے سے (۱) رنگ (۲) ٹو (۳) مزہ میں سے ایک چیز بھی بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔

ایسے جاری پانی میں جب اس قدر پاک پانی مل جائے کہ اُس کے بدلے ہوئے رنگ، ٹو اور مزے کو دور کر دے تو وہ پانی پاک ہو جاتا ہے۔

۳۔ کثیر بند پانی (حوض وغیرہ):

ایسے پانی کے احکام وہی ہیں جو جاری (پتے ہوئے رواں) پانی کے احکام ہیں۔

کثیر پانی میں بدنو آ رہی ہو، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ بدنو پاک چیز کی ہے یا ناپاک شے کی تو ایسے پانی سے اس وقت تک وضو اور غسل درست ہے جب تک اُس کے ناپاک ہونے کا علم نہ ہو جائے۔

پتوں وغیرہ کے گرنے سے ٹو بدل جانے یا کاہی جم جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

متفق مسائل:

☆ کسی مجبوری کے بغیر آپ زم زم سے وضو اور غسل کرنا اچھا نہیں ہے۔

☆ دھوپ کے گرم پانی سے سفید داغ کا خدشہ ہوتا ہے، ایسے پانی سے وضو اور غسل نہ کرنا

بہتر ہے۔

نجاستیں اور ناپاکی

نجاست کی دو قسمیں (حقیقی، حکمی)

۱۔ نجاستِ حقیقی:

نجاستِ حقیقی وہ ہے جو دیکھنے میں آسکے۔ مثلاً پیشاب، پاخانہ، گوبر اور لید وغیرہ۔

نجاستِ حقیقی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) نجاستِ غلیظہ (۲) نجاستِ خفیفہ۔

(الف) نجاستِ غلیظہ:

جو ناپاکی سخت ہو یا تھوڑی سی بھی لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہو۔ نجاستِ غلیظہ میں

مندرجہ ذیل شامل ہیں۔

☆ انسان کا پیشاب، پاخانہ۔

☆ تمام جانوروں کی لید، گوبر

☆ حرام جانوروں کا پیشاب

☆ انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون

☆ منی اور شراب

☆ مرغی، بلیغ کی بیٹ

☆ سور کا گوشت، بال، ہڈی وغیرہ تمام چیزیں

(ب) نجاستِ خفیفہ:

جو ناپاکی ذرا کم ہو اور ہلکی ہو

نجاستِ خفیفہ میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

☆ حرام پرندوں کی بیٹ

☆ حلال جانوروں کا پیشاب

۲۔ نجاستِ حکمی:

وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی، مگر حکمِ شریعت سے ثابت ہے۔ جیسے بے وضو

ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔

نجاستِ حکمی کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) حدیثِ اصغر (۲) حدیثِ اکبر۔

حدیثِ اصغر سے مراد ہے بے وضو ہونا۔

حدیثِ اکبر سے مراد ہے غسل کی حاجت ہونا۔ اسے جنابت بھی کہتے ہیں۔

نجاستِ غلیظہ کیسے دُور ہوگی؟

نجاستِ غلیظہ اگر پتلی ہو یا بہنے والی ہو جیسے پیشاب یا خون وغیرہ، تو ان کو دھونا ضروری

ہے۔ اگر پھیلاؤ میں روپیہ سے کم ہو تو دھونا فرض تو نہیں مسنون ہے۔

نجاستِ غلیظہ اگر گاڑھی ہو مثلاً پاخانہ یا گوبر وغیرہ تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ اگر

ساڑھے چار ماشے سے کم ہو تو دھونا فرض نہیں مسنون ہے۔

نجاستِ غلیظہ کے احکام:

۱۔ جس حد تک نجاست کا دھونا فرض ہے۔ اگر اس نجاست کے ہوتے ہوئے نماز شروع

کر دی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔

۲۔ پانی سے استنجائے بغیر نماز شروع کر دی اور نجاست کم مقدار میں تھی تو نماز مکروہ ہوگی،

گو لوٹنا ضروری نہ ہوگا۔

۳۔ نجاستِ غلیظہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا خواہ کم مقدار میں

ہو۔

۴۔ کھانے میں کوئی نجاست ذرا سی بھی پڑ جائے تو وہ کھانا ناپاک ہو جائے گا۔

نجاستِ خفیفہ کے احکام:

نجاستِ خفیفہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے، تو جس حصہ پر لگی ہے تو اس کے چوتھائی سے

کم ہونے کی صورت میں دھونا واجب نہیں، چوتھائی سے زیادہ ہو تو فرض ہے، دھوئے بغیر نماز نہ ہوگی۔

نجاستِ خفیہ اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں پڑ جائے تو وہ نجسِ خفیف ہو جاتا ہے۔

نجاست کے عمومی احکام:

۱۔ دودھ پینا چھوٹا بچہ یا اگر متہ بھر دودھ ڈال دے تو وہ نجس کے حکم میں ہوگا، لیکن اس کا دھونا ضروری ہوگا۔

۲۔ مٹی، پتھر اور اینٹ کے فرش یا دیواریں وغیرہ خشک ہو جانے اور نجاست کا اثر جاتے رہنے پر پاک ہو جاتی ہیں۔

۳۔ ایسے کپڑے، کپڑے یا گدے وغیرہ جو نچوڑے نہ جاسکتے ہوں، ان کے دھونے اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ پھر دوسری، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں۔ تاہم جس قدر ملنا اور نجاست لگانا ممکن ہو اس کی پوری کوشش کی جائے۔

۴۔ ناپاک چیز جل کر راکھ ہو جائے تو راکھ پاک ہے۔

استنجا

استنجے کی احتیاطیں:

☆ حضرت عبداللہ بن مغفلؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی:

"تم میں سے کوئی ہرگز ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانہ میں پہلے پیشاب، پھر اس میں غسل یا وضو کرے، کیونکہ اکثر دوسو سے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔"

(سنن ابی داؤد)

بیت الخلا جانے کی دعا:

☆ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

”میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثیوں سے“

قضائے حاجت کے بعد کی دُعا:

☆ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَعَافَانِيْ

”تمام حمد و سپاس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے گندگی زور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی“

(سُنن نسائی)

پنجگانہ نمازوں کے اوقات

نماز فجر:

صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک

نماز ظہر:

نصف النہار (یعنی سورج کے ڈھلنے سے اس وقت تک جبکہ ہر چیز کا سایہ دو مثل (ڈبل) ہو جائے۔

نماز عصر:

ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد غروب آفتاب تک۔

نماز مغرب:

غروب آفتاب سے شفق کی سرخی اور سپیدی غائب ہو جانے تک۔

نماز عشاء:

شفق کی سرخی اور سپیدی آسمان سے غائب ہو جانے کے وقت سے صبح صادق تک۔
افضل یہ ہے کہ نمازیں اول وقت ادا کی جائیں اور یہ احساسِ فرض کا عین تقاضہ ہے۔

پنجگانہ نمازوں کی حکمتیں

نماز فجر:

صبح نیند سے اٹھنے کے وقت فرض کی گئی ہے تاکہ سب سے پہلا کام بارگاہِ قدوسیت میں حاضری اور عجز و نیاز کے اظہار سے ہو۔ دوپہر زوال آفتاب تک کوئی نماز فرض نہیں کی گئی تاکہ ہر شخص اس طویل وقفہ میں اپنے کام کاج اور ذمہ داریاں پوری کر سکے۔

نماز ظہر:

پورے آدھے دن کے وقفہ کے بعد فرض کی گئی ہے اور اس میں بھی یہ سہولت دی گئی کہ خواہ اول وقت ادا کی جائے یا اپنے حالات کے مطابق گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی تاخیر کر کے ادا کر لے۔ مقصد یہ ہے کہ بارگاہِ خداوندی سے غیر حاضری کی مدت اس سے زیادہ طویل نہ ہو۔

نماز عصر:

شام کے آثار شروع ہونے کے وقت فرض کی گئی ہے۔ یہ وقت بالعموم کام کاج سے رخصت پانے اور تفریحی مشاغل میں مشغول ہو جانے کا ہوتا ہے۔ بندگی کا تقاضہ ہے کہ بندہ اس وقت بھی اپنے اللہ پاک کو یاد رکھے۔

نماز مغرب:

دن کے ختم ہونے پر فرض کی گئی ہے۔ دن کے خاتمے اور رات کے آغاز کے وقت بھی بندہ بارگاہِ حق میں حاضر ہو کر اس کی حمد و ثناء کرتا ہے۔

نماز عشاء:

رات کو سونے سے قبل لازم کی گئی ہے تاکہ روزانہ کی زندگی کا آخری عمل بھی نماز ہو۔

وقت پر نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام

(احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں)

نماز فجر:

رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

☆ **أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِالْأَجْرِ**

”صبح کا اُجالا پھیل جانے پر فجر کی نماز پڑھ لو، کیونکہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔“

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، مسند دارمی)

نماز ظہر:

نماز ظہر کے بارے میں حضرت ابی سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

☆ **إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْجِ**

جَهَنَّمَ۔

”جب گرمی زیادہ ہو تو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھو۔ گرمی کی شدت آتش دوزخ سے

ہے۔“

(صحیح بخاری)

حضور اکرم ﷺ کا اپنا عمل بھی ملاحظہ فرمائیے۔

حضور ﷺ کے خادم خاص حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ

☆ **إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ۔**

”جب گرمی ہوتی تو دیر کر کے ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھتے اور جب سردی کا موسم

ہوتا تو جلدی (اول وقت) پڑھ لیتے۔“

(سنن نسائی)

نماز مغرب:

مغرب کی نماز بھی حضور اکرم ﷺ اول وقت ہی ادا فرماتے تھے۔

حضرت ایوبؓ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے:

☆ **لَا يَزَالُ أَقْتَبِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤْخَرُوا۔**

المغرب الي ان تشتبك النجوم

”میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی (یا فرمایا کہ) طریقہ فطرت پر رہے گی جب

تک مغرب کی نماز اتنی تاخیر کرنے نہ پڑھیں کہ ستارے ظاہر ہو جائیں“

(سنن ابی داؤد)

نماز عشاء

حضرت نعمان بن بشیر روایت فرماتے ہیں کہ:

☆ انا أعلم بوقت هذه الصلوة صلوة العشاء.....

”میں نماز عشاء کے وقت کو تم سب سے زیادہ جانتے والا ہوں“

رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جس وقت چاند کی تیسری رات

میں چاند غروب ہوتا ہے۔“

(سنن ابی داؤد، مسند وارمی)

یاد رہے تیسری رات میں چاند اکثر غروب آفتاب کے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے

درمیان غروب ہوتا ہے..... یہ تھا نماز عشاء کی ادائیگی کے لئے حضور ﷺ کا معمول۔

نمازوں میں تاخیر اور قضاء

اس مضمون کے آخر میں حضور ﷺ کے خادم خاص حضرت انس کی یہ روایت بھی پڑھ لیجئے:

وہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے:

☆ مَنْ نَسِيَ صَلَوةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا

ذَكَرَهَا۔

”جب کوئی شخص نماز بھول جائے یا نماز کے وقت سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے

کہ جب یاد آئے یا سو کر اٹھے اسی وقت پڑھ لے۔“

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تقدیر الہی سے نادانستہ نماز رہ جائے یا ارادہ کے باوجود سوتے ہوئے نماز کا وقت نکل جائے تو کفارہ نہیں ہوتا۔ فوراً فوت شدہ نماز ادا کر لینی چاہیے۔ گناہ اور جرم جب ہے کہ آدمی دانستہ اور جائگے ہوئے نماز قضا کر دے۔

اذان کا بیان

فرض نمازوں سے قبل بلند آواز سے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ (ہدایہ) حکم ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے باواز بلند اذان دیجائے۔ مقصد یہ ہے کہ اذان سن کر سب جمع ہو جائیں اور باجماعت نماز ادا کریں مسجد میں ہوں یا باہر اذان سنت نبویؐ ہے۔

اذان کیا ہے؟

اذان نماز کا بلاوا ہے۔ توحید خداوندی اور رسالت محمدیہ (علیٰ صاحب الصلوٰۃ والسلام) کا اعلان ہے۔ عبادت الہی کے لئے دعا ہے اور فلاح و کامیابی کی صدا ہے۔

اذان کے کلمات:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں

حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ

آؤ نماز کی طرف

حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ

آؤ نماز کی طرف

حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ

آؤ کامیابی کی طرف

حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ

آؤ کامیابی کی طرف

اللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ سب سے بڑا ہے

اللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ سب سے بڑا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

فجر کی اذان:

فجر کی اذان میں حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد دوبارہ الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنَ

النُّوْمِ کہنا مستحب ہے۔ یعنی ”نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔“

اذان کا طریقہ:

نماز کا وقت ہو جائے تو با وضو قبلہ رو ہو کر، کسی بلند جگہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان

کہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو ڈور تک اذان کا بلاوا اپنے اکثر مساجد کے مینار اس مقصد کے

لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔

پہلی ہر دو تکبیروں کے بعد اس قدر ٹھہرے کے سننے والا اس کا جواب دے سکے اور

دوسرے کلمات میں ہر کلمہ کے بعد ٹھہر کر دوسرا کلمہ بلند کرے۔ حضرت رسول اکرم ﷺ نے اپنی

مسجد کے مؤذن حضرت بلال کو حکم دیا تھا إِذَا أَذَّنْتَ فَتَوَسَّلْ ”اذان آہستہ آہستہ یعنی ٹھہر

ٹھہر کر دیا کرو“

(ترمذی)

حی علی الصَّلَاةِ کہتے وقت دائیں طرف اور حی علی الْفَلَاحِ کہتے وقت بائیں سمت منہ

پھیرے لیکن سینہ اور پیر قبلہ کی طرف ہی رہیں۔

اذان دیتے وقت اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لی جائیں۔ حضور رسول کریم ﷺ نے حضرت بلال گو یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا: **لَا تَزِدُ فِيهِمْ مِنْ صَوْتِكَ** "ایسا کرنے سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی"

(سنن ابن ماجہ)

چند مسائل:

- ۱۔ مقررہ مؤذن موجود ہو تو اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کوئی دوسرا شخص اذان نہ کہے۔
- ۲۔ نابالغ کا اذان کہنا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت مکروہ (ناپسندیدہ امر) ہے۔
- ۳۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت بند کر دی جائے۔ قرآن کریم کی سورۃ جمعہ میں واضح طور پر اس کی ممانعت موجود ہے۔

اذان کا جواب:

مسنون طریقہ یہ ہے کہ مؤذن کی اذان سننے والا اذان کا جواب دے۔ حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے صدق دل سے اذان کے کلمات کا جواب دیا **دَخَلَ الْجَنَّةَ** "وہ جنت میں جائے گا۔"

(صحیح مسلم)

اذان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ سننے والا اپنے طور پر خاموشی سے وہی کلمات دہراتا جائے جو مؤذن بلند آواز سے کہے۔ مگر جب مؤذن **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** اور **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** کہے تو سننے والا **أَحْمَدُ** کہے۔ **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ** کے جواب میں اس کے اعادہ کے علاوہ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ**

وسلم بھی کہے۔

(درالمختار)

نجز کی اذان میں الصلۃ خیر من النوم کے جواب میں کہے صدقت
وَبَوَّزَتْ ”تو نے سچ کہا اور اچھا کہا“۔

بیک وقت یا یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ اذانوں کی آواز کان میں پڑے تو ان
میں جو قریبی اور پہلی اذان ہو اس کا جواب کافی ہوگا۔

یہ تو زبانی جواب ہے۔ عملی جواب یہ ہے کہ اذان سن کر نماز کے لئے چل کھڑا ہو اور
جماعت میں شریک ہو جائے۔

اذان کی ابتداء:

رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور نماز باجماعت
ادا کرنے کے لئے مسجد کی تعمیر ہوئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کا وقت ہونے کے اعلان کا کوئی
خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔

حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ کسی نے کہا بطور علامت کوئی خاص
جھنڈا بلند کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ کسی بلند جگہ آگ روشن کی جائے، اور کسی نے نصلارے
کی طرح ناقوس بجانے کی تجویز پیش کی۔

رسول کریم ﷺ کو کسی تجویز پر اطمینان نہ ہوا اور اس بارے میں مٹکر رہے۔ آپ ﷺ
کی اس فکر مندی نے بعض صحابہ کرام کو بہت پریشان کر دیا۔ ایک انصاری حضرت عبد اللہ بن
عبدالربہ بہت ہی بے چین ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس رات خواب دیکھا۔ اس خواب میں انہیں
اذان اور اقامت کی تلقین ہوئی۔ انہوں نے صبح سویرے ہی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر
ہو کر اپنا خواب عرض کیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”انشاء اللہ یہ رؤیا حق ہے“۔

حضرت نبی کریم ﷺ نے ایک نصاریٰ سے فرمایا کہ تم بلالؓ کو اذان کے کلمات یاد کرادو۔ ان کی آواز بلند ہے۔ وہ ہر نماز کے لئے اس طرح اذان دیا کریں۔

اس دن سے اذان کا یہ نظام قائم ہوا جو آج تک دین اسلام اور ملت اسلامیہ کا خاص الخاص شعار ہے۔ چودہ سو سال سے دنیا کے ہر قریہ اور بستی میں مؤذن اپنے گلے کی پوری طاقت اور پھیپھڑوں کی پوری قوت سے تکبیر کی صدائے دل نواز بلند کر رہے ہیں۔ دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب کہیں نہ کہیں اذان نہ دی جا رہی ہو۔

تلقین اذان کا ایمان افروز واقعہ:

فتح مکہ کے بعد ۸ھ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ غزوہ حنین سے واپس تشریف لارہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور ﷺ کے مؤذن نے اذان شروع کی۔

ابومخدرہ ایک شوخ نوجوان تھے۔ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ اپنے نو دوستوں کے ہمراہ انہوں نے بطور مذاق اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ حضور اکرم ﷺ نے ان سب کو بلوا بھیجا اور فرمایا تم میں وہ کون ہے جس کی آواز سب سے بلند تھی۔

سب نے ابومخدرہ کی طرف اشارہ کیا اور یہ بات تھی بھی سچی۔ آپ ﷺ نے سب کو چھوڑ دیا، انہیں روک لیا اور فرمایا کھڑے ہو کر اذان کہو۔

ابومخدرہ کو اسلام اور داعی برحق سے نفرت اور بغض کے باوجود ناچار کھڑا ہونا پڑا۔ حضور ﷺ نے اذان کے کلمات بتلانے شروع کیئے اور فرمایا کہو:

اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر

اذان ختم ہوئی تو حضور ﷺ نے انہیں ایک تھیلی عنایت فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی۔ سر کے اگلے حصہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور پھر دست مبارک سینہ اور چہرہ پر اور قلب و جگر پر پھیرا اور دعا فرمائی۔ **بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ** ”اللہ تعالیٰ تیرے اندر برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے“۔

ابومخدرہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی دُعا اور سبِ مبارک کی برکت سے میرے دل سے کفر اور نفرت یکسر دُور ہو گئی، ایمان اور محبت سے دل معمور ہو گیا۔ میں نے عرض کیا مجھے مکہ معظمہ میں بیت اللہ کا موذن بنا دیجئے۔ آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی۔

چنانچہ ابومخدرہ ہمیشہ مکہ معظمہ میں اذان دیتے رہے۔ ان کے عشق کا کمال یہ ہے کہ پیشانی کے جس حصہ پر حضور ﷺ نے سبِ مبارک رکھا تھا انہوں نے اس جگہ کے بال کبھی نہ کٹوائے۔

اذان اور موذن کی فضیلت:

☆ "بحقِ وائس اور ہر مخلوق جو اذان کی آواز سنتی ہے۔ روزِ قیامت اذان دینے والے کی اذان کی گواہ ہوگی۔" (بخاری)

☆ "حضرت جابر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ذَهَبَ حَتَّىٰ يَكُوْنَ وَكَانَ الرُّوْحَا "جب شیطان آواز سنتا ہے تو روحا کے مقام کے برابر دُور چلا جاتا ہے" (مسلم) روحا یہ منورہ سے کوئی ۳۶ میل دُور واقع تھا۔

☆ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اَلْمُوْذِنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ۔ "اذان کہنے والے روزِ قیامت دوسرے سب لوگوں کے مقابلہ میں دراز گردن (سر بلند) ہوں گے" (صحیح مسلم)

☆ ارشادِ نبوی ہے "اذان کہنے والے اور تبلیہ پڑھنے والے اپنی قبروں سے اس حال میں

نکلیں گے وہ اذان بلند کرتے ہوں گے اور تلبیہ پڑھتے ہوں گے۔

(مجم الاوسط طبرانی)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے:

”امام ضامن ہے (اس پر اپنی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نماز کی بھی ذمہ داری ہے)

موذن امن ہے (اس پر صحیح وقت پر نمازوں کے لئے نلادے کا اعتماد کیا جاتا ہے)۔

اے اللہ اماموں کو ٹھیک چلنے کی توفیق دے اور موذنوں کی مغفرت فرمادے۔“

(مسند احمد، جامع ترمذی، مسند شافعی)

اذان کے بعد کی دُعا

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ

اے اللہ! اے اس کامل نلادے اور قائم ہونے والی نماز کے رب

اَب مُحَمَّدًا، الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ

حضرت محمد کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مِّمَّ مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

انہیں اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے

وَازْرُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور ہمیں قیامت کے دن اُن کی شفاعت عطا فرما

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

یقیناً تو وعدہ کے خلاف نہیں فرماتا ہے۔

☆ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہے۔ ”جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی حَلَّتْ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ” وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حق دار ہوگا۔“

(صحیح بخاری)

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان دس خوش نصیب لوگوں میں جن کی بخشش کی خوشخبری خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دی..... وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان میں شہادت تو حید اور شہادت رسالت کے کلمات سن کر یہ کہا اس کے گناہ بخش دیئے گئے۔

اقامت (تکبیر)

فرض نمازوں کے لئے نماز باجماعت سے قبل اذان کی طرح اقامت (تکبیر) کہنا سنت ہے بلکہ اس کی تاکید اذان سے بھی زیادہ ہے۔ (شامی)
اقامت کے کلمات:

وہی ہیں جو اذان کے ہیں۔ اضافہ صرف اس قدر ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد قَدْ كَامِبِ الصَّلَاةِ دوبارہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ”تحقیق نماز کھڑی ہوگئی“
تکبیر کے مسائل:

تکبیر کہنے کا حق اس شخص کو ہے جس نے اذان پڑھی ہو۔ حضرت زیاد بن الحارث صدیقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فجر کی اذان کا حکم دیا۔ میں نے اذان دی۔ اقامت کا وقت نہوا تو حضرت بلالؓ نے تکبیر کہنے کا ارادہ کیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: **إِنَّ أَخَا صَدَاءٍ قَدْ أَدَّنَ وَمَنْ أَدَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ**۔ ”تمہارے بھائی صدیقی نے اذان دی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو اذان دے وہی تکبیر کہے۔“

☆ اذان اور تکبیر کے درمیان دُعا کا خاص وقت ہے۔

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”اذان اور تکبیر کے درمیان دعا زدنہیں کی جاتی“

(ترمذی شریف)

☆ تکبیر کے کلمات جلد جلد کہنا سنت ہے، اذان کی طرح ٹھہر ٹھہر کر تکبیر نہیں کی جاتی۔

☆ تکبیر کے دوران اگر کوئی کلمہ رہ جائے یا آگے پیچھے ہو جائے تو جہاں یاد آئے وہیں

سے لوٹ جائے اور جہاں تک صحیح تھی اس کے آگے شروع کر دے پوری اقامت از

سیر نو پڑھنا ضروری نہیں۔ (ذریعہ)

☆ تکبیر کے کلمات کا (اذان کی طرح) جواب دینا احادیثِ نبوی سے منقول نہیں۔ تاہم

اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے روکنا بھی لازم نہیں۔

آدابِ مسجد

مسجد میں داخل ہونے کے آداب:

۱۔ مسجد کی طرف ہمیشہ پورے ادب و احترام سے چلیں، دوڑتے ہوئے داخل نہ ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف اور مسجد کے اندر دوڑنے سے منع فرمایا

ہے خواہ اس میں جماعت کی کوئی رکعت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو۔

۲۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلا اپنا داہنا قدم اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں:

☆ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

”اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔“

۳۔ مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نفل نماز پڑھنا مسنون ہے۔ اسے ”تحیۃ المسجد“ کہتے

ہیں۔ ارشادِ نبوی ہے۔

☆ اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ

يَجْلِسَ

”جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہئے کہ بیٹھنے سے قبل دو رکعت

پڑھے

(صحیحین)

مسجد کے فضائل:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے:

☆ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ فَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔

”شہروں اور بستیوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض (ناپسندیدہ ترین مقامات) ان کے بازار ہیں۔“

(صحیح مسلم)

☆ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ

”مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اس کا دل مسجد ہی سے انکار ہے۔ جب تک پھر مسجد میں نہ آجائے“

(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

☆ الْمَسَاجِدُ يُبَوِّتُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ زُؤَارُ اللَّهِ وَحَقُّ عَلَى الْمَرْؤِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ۔

”مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور ان میں حاضر ہونے والے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی (مہمان) ہیں اور جس کی ملاقات کو کوئی آئے اس پر حق ہے کہ وہ آنے والے ملاقاتی کا اکرام کرے۔“

(کنز العمال)

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

☆ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ لِمَسْجِدٍ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ
 فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔

”جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لئے ایمان کی شہادت دو کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔“

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی)

خليفة ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

☆ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَنَى لِي مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔

”فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے ”جو کوئی اللہ کی رضا کے لئے مسجد تعمیر کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرمائے گا۔“

(صحیح بخاری و مسلم)

مساجد کی صفائی اور تزئین:

مساجد کی تعمیر کے علاوہ مساجد کی صفائی اور نگہداشت بھی بڑا اجر رکھتی ہے۔ اتم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

☆ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ يُنْظَفَ وَيُطَيَّبَ۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بنانے کا اور ان کی صفائی اور خوشبو کے اہتمام کا۔“

(سبن ابی داؤد، جامع ترمذی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

☆ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمِنتَنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسَ.

”جو شخص اس بدبودار درخت (پیاز یا لہسن) سے کھائے وہ ہماری مسجد کے نزدیک نہ آئے۔ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔“

(بخاری و مسلم)

احکام مسجد

احادیث نبوی:

☆ جَنِبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِيَانَكُمْ وَمَجَانِبَتِكُمْ وَشِرَائِكُمْ وَيَبَعَكُمْ
وَخُصُومَاتِكُمْ وَزَفَعَ أَضْوَاءِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ
سُيُوفَكُمْ.

”تم اپنی مساجد سے دور الگ رکھو

اپنے چھوٹے بچوں کو اور دیوانوں کو،

اپنی خرید و فروخت کو،

اپنے باہمی جھگڑوں کو اور شور و شغب کو،

حدوں کے قائم کرنے کو

اور اپنی تلواریں بے نیام کرنے کو۔“

(سنن ابن ماجہ)

☆ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ
 وَفِي أَمْوَ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَا لِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ۔
 ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں لوگ دنیوی معاملات پر بات چیت
 کرنے لگیں گے، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کوئی تعلق
 نہیں۔“

(مضب الامان، بیہقی)

جائز نہیں:

☆ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کر دینا جائز نہیں۔
 مستورات کا مساجد میں آنا:

۱۔ دوسری طرف آپ ﷺ نے نیک نہاد خواتین کو فرمایا:

☆ صَلَوَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَوَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ۔
 ”تیری نماز تیرے اپنے گھر میں بہتر ہے۔ اپنے قبیلہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے
 سے۔“

اس ارشاد نبوی کی مخاطب حضرت اہم حمید سعدیہ صحابیہ ہیں وہ خود اپنا واقعہ یوں بیان
 کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا:

۱۔ گویا ایک طرف حضور ﷺ نے مردوں کو ترغیب دی کہ اپنی مستورات کو مسجدوں میں
 حاضر ہو کر نماز ادا کرنے سے نہ روکیں۔ دوسری طرف عورتوں کو فرمایا کہ وہ اپنے
 گھروں میں نماز ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے..... لیکن جب عورتوں اور مردوں

کے حالات میں تبدیلی آگئی اور قوتوں کے اندیشے پیدا ہو گئے تو محرم اسرار نبوت،
آمت کی ماں، زوجہ النبی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا:

☆ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ مَا أَخَذَتْ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ
الْمَسَاجِدَ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ -

”اگر اللہ کے رسول ﷺ ان باتوں کو دیکھتے جو عورتوں نے (اپنی طرز زندگی میں)
اب پیدا کر لی ہیں، تو آپ ﷺ ان کو مسجدوں میں جانے سے منع فرما دیتے۔ جس
طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو (اگلے پیغمبروں کے زمانہ میں) روک دیا گیا تھا۔“
(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

نماز باجماعت

علم جماعت:

☆ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ إِتْبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا وَمَا
الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي
صَلَّى -

”جو شخص نماز باجماعت کے لئے مؤذن کی اذان سنے اور جماعت میں شریک ہونے
میں اس کے لئے کوئی واقعہ عذر مانع نہ ہو مگر وہ پھر بھی شریک نہ ہو تو اس کی نماز اللہ کے
ہاں قبول نہ ہوگی۔“

صحابہ نے عرض کیا ”واقعہ عذر کیا ہو سکتا ہے؟“ فرمایا ”جان و مال کا خوف یا بیماری۔“
(سنن ابی داؤد، سنن دارقطنی)

ترک جماعت پر وعید:

☆ لَيَنْتَهِنَ رِجَالٌ عَنِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَا خَرْقَنَ يُؤْتَهُمْ

”لوگوں کو چاہئے کہ وہ ترک جماعت سے باز آجائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔“

(کنز العمال، ابن ماجہ)

نماز باجماعت کی فضیلت:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

☆ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدْيِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
”باجماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں ستائیس درجے زیادہ افضل ہے۔“

(صحیحین)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ”جو شخص چالیس دن تک ہر نماز جماعت کے سحر پڑھے، اس طرح کہ اس کی تکبیر ادائیگی (پہلی تکبیر) بھی فوت نہ ہوگی ہو تو اسے دو ہاتوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے، ایک آتش دوزخ سے دوسرے نفاق سے۔“

(جامع ترمذی)

☆ نماز باجماعت کی فضیلت کا مزید اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث سے کیجئے کہ آقائے دو جہاں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”جس شخص نے بحسن و خوبی وضو کیا۔ پھر وہ جماعت کے ارادہ سے مسجد کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ بزرگ و برتر اسے جماعت میں شریک لوگوں کے برابر اجر دے گا اور ان لوگوں کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہ ہوگی۔“

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

بزرگوں کے ہاں جماعت کی قدر و قیمت:

- ☆ ایک دفعہ خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک نماز جماعت سے رہ گئی تو اس کے کفارہ میں آپ نے اپنا کجیوروں کا ایک بیٹھ قیث باغ خیرات کر دیا۔
- ☆ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کا یہ حال تھا (اللہ باپ بیٹا دونوں سے راضی) اگر کسی وقت جماعت سے رہ جاتے تو سوگ واروں کی طرح بیٹھ جاتے، اس غم میں کھانا پینا بھی چھوٹ جاتا۔

جماعت میں صف بندی

- ☆ سَوُّوْا صُفُوْفِكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ
- ”لوگو! نماز میں صفوں کو برابر کیا کرو۔ کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا اور برابر کرنا نماز اچھی طرح ادا کرنے کا جزو ہے۔“

(صحیح بخاری و مسلم)

- ☆ حضرت رسول کریم ﷺ نماز میں ہمیں برابر کرنے کے لئے ہمارے موٹھوں پر ہاتھ پھرتے تھے اور فرماتے تھے۔ برابر، برابر ہو جاؤ اور مختلف نہ ہو (آگے پیچھے نہ ہو) ورنہ اس کی سزا میں تمہارے قلوب باہم مختلف ہو جائیں گے۔“

(صحیح مسلم)

صف اول:

نماز یا جماعت میں صف اول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس ضمن میں ہم چند ارشادات نبوی نقل کرتے ہیں۔ فرمایا:

- ☆ اَبْنُوْا الصَّفَّ الْمَقْدَمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيْهِ لَمَّا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُوْخِرِ۔

”پہلے اگلی صف میں پوری کیا کرو، پھر اس کے قریب والی تاکہ جو کسی سر رہے وہ آخری ہی

صف میں رہے۔“

(سنن ابی داؤد)

☆ حضور اکرم ﷺ نے یہاں تک فرمایا ہے:

”اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر و ثواب ہے اور

اس پر کیا عملہ ملے والا ہے تو لوگوں میں اس کے لئے ایسی کنگش ہو کہ قرص اعجازی سے

فیصلہ کرنا پڑے۔“

(بخاری و مسلم)

معنوں کی ترتیب:

سرورِ عالم، ہادیِ برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام معنوں کی ترتیب کس انداز میں فرماتے تھے۔

اس کا جواب حضرت ابو مالک اشعریؓ کی زبان سے سنئے۔ فرمایا:

”کیا میں تم سے رسول اللہ ﷺ کی نماز بیان کروں؟“ پھر خود بیان کیا ”آپ ﷺ نے

نماز قائم فرمائی۔ پہلے مردوں کو صف بتے کیا۔ ان کے پیچھے بچوں کی صف بنائی۔ اس کے بعد نماز

پڑھائی۔ پھر فرمایا میری امت کی نماز کا یہی طریقہ ہے۔“

(سنن ابی داؤد)

اگر نمازی صرف دو ہوں یعنی ایک امام اور دوسرا مقتدی۔ تو اس مقتدی کو امام کے

پچھے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہئے۔ اور جب دو ہو جائیں تو دونوں امام کے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری

صف بنائیں۔

جماعت کے چند ضروری مسائل:

سنن ابی داؤد میں حضرت ابی ہریرہؓ کی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

”جب تم نماز کو آؤ اور ہم سجدہ میں ہوں تو تم سجدہ میں شریک ہو جاؤ ورنہ اس کو کچھ شمار نہ کرو اور جس نے امام کے ساتھ رکوع پالیا اس نے نماز (یعنی وہ رکعت) پالی۔“

باجامعت نماز کے چند مسائل:

۱۔ امام ہاندھ کر نماز پڑھنا اور پڑھانا افضل ہے، مگر اس کو امامت کے لئے لازمی سمجھنا درست نہیں۔ بلکہ ہر وقت امام سر پر ہے۔

۲۔ امام تکبیر تحریمہ یا دوسری کوئی تکبیر بلند آواز کے بجائے مکتول کر آہستہ کہہ لے تو نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہوا جب نہ ہوگا۔ مقتدی ایسی صورت میں امام کی پیروی کرے۔

(شامی)

اپنے مقتدیوں کی رعایت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بن کر نماز پڑھائے تو چاہئے کہ ہلکی نماز پڑھائے (یعنی زیادہ طویل نہ کرے) کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی، اور بوڑھے بھی اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز جہا پڑھنی ہو تو جتنی لمبی چاہے پڑھے۔“

(صحیحین)

حضرت قیس بن حازم رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے:

”مجھ سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا:

”یا رسول اللہ! بخدا۔ میں فلاں شخص کی وجہ سے صبح کی نماز میں شریک نہیں ہوتا کہ وہ بہت طویل نماز پڑھاتا ہے۔“

راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ (رسول اللہ ﷺ نے اس بارہ میں خطبہ دیا) اور میں

نے کبھی آپ ﷺ کو خطبہ کے دوران اس دن سے زیادہ غضب ناک نہیں دیکھا اس خطبہ میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو (اپنے غلط طرز عمل سے اللہ کے بندوں کو) دُور بھگانے والے ہیں۔ جو کوئی تم میں سے لوگوں کا امام بنے اور ان کو نماز پڑھائے تو نماز اختصار کے ساتھ پڑھائے، کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، بوزھے بھی اور کام کاج والے بھی۔“
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

حضور ﷺ کی ذاتی مثال:

گویا اپنے مقتدیوں کی رعایت میں جہاں نماز میں اختصار کی ضرورت ہے۔ وہاں نماز کو ادھورا چھوڑنا، یا عجلت کرنا مطلوب نہیں بلکہ اس کی تکمیل اور کمال بھی اسی قدر ضروری ہے۔

مقتدیوں کی قسمیں:

کوئی مقتدی مندرجہ ذیل حالات سے خالی نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے مقتدیوں کی چار

قسمیں ہیں:

۱۔ مُدْرِك:

جو شخص امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شریک ہو اور آخر تک ساتھ رہا۔ اس طرح اس کو پوری نماز مل گئی اسے ”مدرک“ کہتے ہیں۔

۲۔ مُسْبُوق:

جو شخص بعد میں شریک نماز ہوا ہو۔ ابتدا کی اسے ایک یا کئی رکعت نہ ملی ہوں۔ وہ

”مَسْبُوق“ ہے۔

۳۔ لَاحِق:

وہ شخص ہے جو امام کے ساتھ ابتدا سے شریک نماز ہوا، مگر بعد میں اس کی ایک یا زیادہ رکعات جاتی رہیں۔ مثلاً درمیان میں قعدہ یا سجدہ میں آٹھ لگ گئی اور اس دوران امام نے ایک

چند رکعات پڑھ لیں۔

۴۔ مسبوق لاحق:

وہ شخص ”مسبوق لاحق“ کہلاتا ہے جو بعد میں شریک نماز ہوا اور اس کے بعد اس کی ایک زیادہ رکعات لاحق کی طرح جاتی رہیں۔

ان چاروں صورتوں میں مسائل کی نوعیت مختلف ہے۔ اس لئے احکام بھی مختلف ہیں۔ کارین کی آسانی کے لئے ہم ہر ایک کے ضروری احکام و مسائل جدا جدا بیان کرتے ہیں۔
مقتدیوں کے عمومی مسائل:

۱۔ امام کی قرأت سب مقتدیوں کے لئے کافی ہے۔ احکام کے نزدیک کسی مقتدی کا امام کے پیچھے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

(ہدایہ)

۲۔ ضروری ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کی نماز ایک ہو۔ مثلاً امام نفل پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے مقتدی فرض نماز کی نیت نہیں کر سکتا۔ یا امام ادا نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی اپنی قضا نماز اس کے پیچھے ادا نہیں کر سکتا۔ البتہ امام فرض پڑھ رہا ہو تو مقتدی نفل کی نیت سے اکتفا کر سکتا ہے۔

۳۔ مقتدی خواہ اکیلا ہو امام سے آگے یا بالکل برابر نہ کھڑا ہو اور پیچھے کھڑا ہو۔ یعنی کم از کم اس کی ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے ہو۔

۴۔ مقتدی مسجد کی چھت پر مسجد سے ملحقہ مکان میں یا میخان میں امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے، بشرطیکہ

(الف) امام سے آگے نہ ہو جائے۔

(ب) درمیان میں کوئی شے اکتادہ سے روکنے والی نہ ہو۔

(ج) درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو، مثلاً عام گزرگاہ وغیرہ۔

(د) امام کی ٹگبیروں کی آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہو، براہ راست یا کبتر اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ۔

.....صورت دیگر نماز نہ ہوگی.....

۵۔ مقتدیوں کی صفوں کے درمیان بھی اس قدر فاصلہ نہیں ہونا چاہئے کہ جس سے کوئی سواری گزر سکے۔

۶۔ ایک شخص فرض نماز پڑھ چکا ہو اور اسے جماعت مل جائے تو وہ نفل نماز کی نیت کر کے جماعت میں شریک ہو سکتا ہے..... لیکن فجر اور عصر کی نماز میں نہیں۔

۷۔ مقتدی نے ابھی رکوع یا سجدہ میں تسبیح تین بار بھی نہ کی ہو، یا قعدہ میں تشہد ابھی مکمل نہ کی ہو اور امام نے رکوع یا سجدہ سے سر اٹھا لیا یا قعدہ سے کھڑا ہو گیا تو مقتدی بھی اس کے پیروی کرے۔ تسبیح یا تشہد مکمل کرنے کے لئے تاخیر روا نہیں۔

۸۔ مقتدی اگر امام سے پہلے دوسرا رکوع کر لے، خواہ کسی وجہ سے ہو تو مقتدی کو پھر لوٹ آنا چاہئے۔

مسبوق کیسے شریک جماعت ہوا؟

وہ شخص جو ابتداء سے نماز میں شریک نہیں تھا۔ بعد میں شامل ہوا، وہ مسبوق ہے۔ مسبوق پہلے نماز کی نیت کرے (خواہ دل میں ہو) پھر اطمینان کے ساتھ، کھڑے ہو کر، تکبیر تحریرہ کہہ کر، ہاتھ باندھے (امام رکوع میں ہو تو دوبارہ تکبیر (اللہ اکبر) کہہ کر رکوع میں جائے۔

اگر ایک دفعہ بھی سبحان ربی العظیم کہہ لیا۔ یا امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے سے قبل رکوع میں شامل ہو گیا تو نیک رکعت ہوگئی۔ ورنہ نہیں..... لیکن یہاں ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہئے کہ ہر رکعت طے پانے سے، امام جس حال میں ہو، اس کے ساتھ شریک جماعت ہو جانا ہی اقتداء ہے۔

بعض حضرات امام کو رکوع میں دیکھ کر رکعت حاصل کرنے کی خاطر دوڑ کر آتے ہیں، یہ صورت بکرمفع ہے..... اس طرح کہ جلدی جلدی نیت کی اور اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ باندھے رکوع میں چلے گئے۔ یہ بھی درست نہیں۔ یاد رکھیں نیت کرنا، کھڑے ہو کر تکبیر تحریرہ کہنا، ہاتھ باندھنا، دوبارہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ضروری ہے۔

مسیبوق بقیہ نماز کیسے پوری کرے؟

مسیبوق (بعد میں شریک جماعت ہونے والا) آخر تک امام کے ساتھ شریک نماز رہے۔ البتہ جب امام سلام پھیرے تو مسیبوق سلام نہ پھیرے بلکہ پہلے سلام کے بعد کھڑا ہو جائے۔

بٹھوئی ہوئی رکعات کو اس طرح ادا کرنے کو یا اس نے ابھی نماز شروع کی ہے۔ مثلاً:

(الف) ایک رکعت بٹھوئی ہو تو کھڑے ہو کر فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے۔

(ب) دو رکعات رہ گئی ہوں تو پہلی رکعت میں فاتحہ اور دو تسمیہ، فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے۔

(ج) تین رکعات رہ گئی ہوں تو پہلی رکعت میں فاتحہ اور دو تسمیہ، فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں اور

رکعت پوری کر کے قعدہ کریں..... دوسری رکعت فاتحہ اور سورہ کے ساتھ

پڑھیں اور تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں..... تیسری رکعت میں

صرف فاتحہ پڑھیں، سورہ نہ پڑھیں اور کوئی سورہ کے بعد حسب قاعدہ نماز مکمل کر کے

سلام پھیر دیں۔

(د) مغرب کی ایک رکعت امام کے ساتھ ہو یعنی دو رکعات رہ گئی ہوں تو امام کے سلام

پھیرنے کے بعد اپنی پہلی رکعت میں فاتحہ اور دو تسمیہ، فاتحہ اور سورہ پڑھیں اور رکعت

مکمل کر کے قعدہ کریں۔

دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورہ پڑھ کر رکعت پوری کریں اور قعدہ اخیرہ کر کے سلام

پھیر دیں۔

مسیبوق کی بھول کے مسائل:

۱۔ مسیبوق اگر بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر لے۔ خواہ دونوں طرف ہو تو بھی کھڑے

ہو کر اپنی بقیہ نماز پوری کرنے لے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے نیز سلام کلام کرنے سے بھی

نماز قاسد ہو جائے گی۔

۲۔ اگر مسبوق امام کے سلام پھیرتے ہی کھڑا ہو گیا اور امام نے سجدہ سہو کیا تو مسبوق لوٹ

آئے اور بغیر سلام پھیرے امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک ہو جائے۔

۳۔ مسبوق کو امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام نہ پھیرنا چاہئے۔ البتہ سجدہ سہو میں امام کے

ساتھ شریک ہو، پھر جب امام سجدہ سہو کے بعد دائیں طرف سلام پھیر لے تو حسب

قاعدہ معتدی اپنی باقی نماز پوری کرے۔

۴۔ اگر امام آخری رکعت میں تشهد کے بعد کھڑا ہو جائے مثلاً چار رکعت کے بعد بھی

پانچویں رکعت شروع کر دے تو مسبوق اس کی پیروی نہ کرے، خاموش بیٹھ کر انتظار

کرے۔ اگر امام لوٹ آئے تو مسبوق اس کے ساتھ سجدہ سہو کرنے کے بعد حسب

قاعدہ اپنی بقیہ نماز پوری کر لے۔ اگر امام نہ لوٹے بلکہ پانچویں رکعت کا سجدہ بھی

کر لے تو مسبوق اپنی بقیہ نماز پوری کر لے۔

۵۔ اگر مسبوق کو اپنی بقیہ نماز ادا کرتے ہوئے کوئی سہو ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے۔

لاحق اپنی نماز کیسے پوری کرے؟

یعنی جماعت کے دوران سو جانے، یا ہجوم کے سبب سجدہ وغیرہ نہ کر سکنے کے سبب، یا

کسی وجہ سے کوئی رکعت یا رکن رہ جائے تو وہ کیسے ادا کرے؟ اگر سو جانے کے سبب کوئی رکعت رہ

گئی تھی، تو جس وقت جاگے، پہلے اپنی ہتھوٹی ہوئی نماز کو (امام کا ساتھ چھوڑ کر) پڑھ لے اور اس

طرح پڑھے جیسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی قیام میں قرأت نہ کرے..... جب

ہتھوٹی ہوئی نماز پوری ہو جائے تو امام کے ساتھ ہو کر باقی نماز پوری کر لے۔ اس دوران اگر امام

نے سلام پھیر دیا تو باقی نماز دستور کے مطابق پوری کرے۔

لاحق سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور سجدہ سہو لازم آجائے تو اس کو ادا کرنا واجب نہیں۔

کیونکہ وہ اس وقت بھی امام کا مقتدی ہے اور مقتدی کے سوا پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔

دوسری جماعت:

۱۔ ایسی مسجد میں جہاں نہ امام مقرر ہو، نہ مؤذن اور نمازی بھی باقاعدہ نہ ہوں۔ اس میں

دوسری جماعت، دوسری اقامت کے ساتھ بلا کر سجدہ درست ہے۔

۲۔ محلہ کی مسجد میں امام اعظم کے نزدیک محلے ہٹا کر، جگہ تبدیل کرنے سے بھی جماعت

حالی میں کراہت رہتی ہے۔ اس کی حکمت اور علت ظاہر ہے کہ اس اجازت سے قاعدہ

اٹھا کر قضا جماعت اولیٰ کو ترک کرنے کی عادت کا خطرہ ہے نیز اس سے سُستی

اور کالی کے علاوہ جماعت کا اقرار برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا۔

۳۔ مسجد میں دوسری جماعت کی نوبت اس صورت میں آتی ہے کہ نمازی مقررہ وقت پر نہ

پہنچے ہوں اور یہ بات بجائے خود پسندیدہ نہیں۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک

سب سے پسندیدہ عمل وہ نماز ہے جو وقت پر ادا کی جائے۔

۴۔ مسجد کے علاوہ جہاں کچھ نمازی سبٹ ہو جائیں، یا جماعت نماز ادا کریں جماعت سے

قبل اقامت (گھبر) کہنا مستحب ہے۔ اگر مسجد کی اذان کچھ گوازا وہاں آتی ہے تو الا ان

ندبے میں کوئی قباحت نہیں۔ صورت دیگر اذان بھی مستحب نبویؐ ہے۔

نماز میں غلطی

(امام کو غلطی پہنچو کرنا)

طریقہ:

امام سے قرأت میں غلطی ہو جائے تو مقتدی غلطی پر امام کو حوجہ کرنے (تعمدینے)

کی نیت سے وہ آیت صحیح پڑھوے اور امام اپنی غلطی کو درست کر لے۔

امام سے اگر کسی اور رکن میں غلطی ہو جائے تو حسب موقع سبحان اللہ یا اللہ اکبر

دے۔ سبحان اللہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ (مالتگیری) قمر دینے سے نماام کی نماز میں خلل پڑتا ہے، نہ مقتدی کی نماز میں غرابی واقع ہوتی ہے۔

چند مسائل:

۱۔ اگر امام بقدر ضرورت قرأت کر چکا ہو اور قشایہ لگ جائے تو امام رکوع کر لے تاکہ قمر دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔

۲۔ جو شخص جماعت میں شریک نہ ہو اس سے قمر لینے سے نماز کا سدو جاتی ہے۔

۳۔ اگر امام پہلا قعدہ کرنا محول کر آدمے سے زیادہ کھڑا ہو جائے تو قعدہ کے لئے اشارہ نہ کریں، نیز یہ کہ امام کھڑا ہو جائے تو مقتدی نہ بیٹھے ہیں۔

۴۔ قعدہ آخرہ میں اگر امام محول کر کھڑا بھی ہو جائے تو قمر دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر امام نہ بیٹھے تو خود بھی کھڑے ہو جائیں۔

۵۔ مقتدی کسی صورت میں امام کو اپنی اقتداء کے لئے مجبور نہ کریں، بلکہ امام کی عیوی کریں، غلطی پر صرف قمر دے دیں۔

۶۔ اگر مقتدی، غلطی سے امام کو قلم قمر دے دے، اور امام نہ مانے تو اس سے اس کی نماز میں خلل نہیں پڑتا۔ لیکن قمر دینے کے لئے احتیاط لازم ہے۔

نماز کے مسائل

۱۔ شرائط نماز

۱۔ جسم پاک ہو:

نماز کے تیرہ فرض ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان میں سات باہر کے ہیں انہیں

شرائط نماز کہتے ہیں۔ چوائند کے ہیں انہیں ارکان نماز کہتے ہیں۔

ہم پہلے شرائط نماز بیان کرتے ہیں۔

نماز کی اولین شرط یہ ہے کہ جسم ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔

یعنی جسم پر نہ حقیقی (ظاہری نجاست) ہو جیسے بول و برازی یا خون وغیرہ۔ نہ حکمی نجاست ہو، یعنی وہ نجاست جو ظاہر تو نظر نہیں آتی لیکن شریعت کے حکم سے نجاست میں داخل ہے۔ جیسے وضو نہ ہونا یا غسل کی حاجت ہونا۔

۲۔ کپڑوں کا پاک ہونا:

جو کپڑے نمازی کے جسم پر ہوں ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلاً گرتہ، پاجامہ، زیر جامہ، ٹوپی، عمامہ، وغیرہ۔

یہ سب کپڑے نجاست سے پاک ہوں، نجاست غلطیہ ایک درہم تک معاف ہے اور نجاست خفیفہ جو تھائی کپڑے تک معاف ہے۔ ان کے تفصیلی احکام کتب فقہہ میں ”نجاستیں اور ناپاکی“ کے زیر عنوان ملاحظہ کر لیں۔

۳۔ جگہ پاک ہونا:

نماز کی جگہ کا پاک ہونا تیسری شرط ہے۔ یعنی وہ جگہ جو نمازی کے دونوں قدموں اور گھٹنوں، نیز ہاتھوں اور سجدہ کی جگہ کے درمیان ہو۔

۴۔ ستر پشپا:

ستر سے مراد ہے مرد کا ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ اور عورت کے لئے دونوں ہتھیلیوں، پاؤں اور منہ کے سوا تمام جسم۔

۵۔ نماز کا وقت ہونا:

نماز کے لئے پانچویں شرط ہے کہ نماز شریعت کے مقرر کردہ وقت پر ادا کی جائے۔ قبل از وقت پڑھنے سے ادا نہ ہوگی اور وقت گزرنے کے بعد قضا ہوگی۔

۶۔ استقبال قبلہ (قبلہ نہ ہونا)

بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی طرف رخ ہونا نماز کی چھٹی شرط ہے۔ اسے کعبۃ اللہ اور بیت

اللہ الحرام بھی کہتے ہیں۔ اللہ کا گھر سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ جو ہمارے ملک پاکستان، ہندوستان، وغیرہ کے مغرب کی سمت میں ہے۔

۱۔ نیت کرنا:

نماز کی ساتویں شرط نماز کی نیت کرنا ہے۔ مثلاً جس وقت کی جو نماز اور جس قدر رکعتیں ادا کرنی ہوں، ان کی نیت کرنا۔ دل کے علاوہ زبان سے بھی نیت کرنا مستحب ہے۔

شراکط نماز کے متفرق مسائل:

- ۱۔ پٹروں پاک ہے، اس سے کپڑے دھونا جائز ہے۔
- ۲۔ زمین پر اگر پیشاب وغیرہ کوئی نجاست پڑ گئی اور خشک ہو گئی، بدبو بھی جاتی رہی تو وہ پاک ہو گئی اس پر نماز پڑھنا درست ہے۔
- ۳۔ اگر قبلہ کی صحیح سمت معلوم نہ ہو اور کسی ذریعہ سے معلوم بھی نہ ہو سکتی ہو تو اپنے گمان غالب سے (جس طرف دل گواہی دے) اُس طرف رخ کر کے نماز ادا کر لے، لیکن خوب سوچ کر فیصلہ کرے۔
- ۴۔ دوران نماز اگر صحیح سمت قبلہ معلوم ہو جائے تو نماز کے دوران ہی اُس طرف رخ کر لے۔
- ۵۔ نماز کے بعد اگر معلوم ہو کہ صحیح سمت کچھ اور تھی، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ دو بارہ دوہرانا ضروری نہیں۔

۲۔ ارکان نماز

ارکان نماز سے مراد وہ چھ فرض ہیں جو نماز کے اندر لازم ہیں۔

۱۔ نیت تحریمہ

نیت باندھتے وقت سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا پہلا رکن ہے بلا عذر ٹھکے جھکے کہنا

کافی نہیں۔

۲۔ قیام (کھڑا ہونا):

فرض اور واجب نمازوں میں ایسے سیدھے کھڑا ہونا کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے۔
البتہ بیماری، زخم یا کسی اور قوی عذر کی صورت میں بیٹھ کر تمام نماز ادا کی جاسکتی ہے۔

۳۔ قرأت:

قرأت سے مراد ہے کہ سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کی کم از کم ایک آیت پڑھنا۔ فرض کہ پہلی دو رکعات میں نیز وتر، سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی بڑی سورۃ یا تین آیات یا کم از کم ایک بڑی آیت پڑھنا واجب ہے۔

سورۃ فاتحہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں

پڑھنا واجب ہے۔

۴۔ رکوع کرنا:

رکوع یہ ہے کہ اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔

مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس قدر جھکیں کہ سر اور کم برابر رہے اور ہاتھ پسیوں سے جدا

رہیں اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے معذور کو اس سے کم و بیش بلکہ سر کے اشارہ سے

رکوع کر لینے کی اجازت ہے۔

۵۔ سجدے کرنا:

زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔

سجدہ میں ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر رکھنا چاہیے۔ صرف پیشانی پر سجدہ کرنا مکروہ

ہے اور بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہ ہوگا۔ ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہیں۔

۶۔ قعدہ اخیرہ:

نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا تمام نمازوں میں فرض ہے۔ خواہ فرض نماز ہو، یا سنت یا واجب اور نوافل۔

۳۔ واجبات نماز

نماز کے واجبات چودہ ہیں۔ جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی قصداً چھوڑ دیا جائے تو نماز نہ ہوگی۔ اگر سہواً (بھول کر) رہ جائے اور سجدہ سہواً ادا کر لیا جائے، تو نماز درست ہو جاتی ہے۔

- ۱۔ فرض نمازوں کی دو رکعات میں قرأت کرنا۔
- ۲۔ فرض نمازوں کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی، رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔
- ۳۔ فرض نمازوں کی پہلی دو رکعات میں اور واجب، سنت اور نوافل کی تمام رکعات میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ یا آیت پڑھنا۔
- ۴۔ پہلے سورۃ فاتحہ اور بعد میں سورۃ یا آیت پڑھنا۔
- ۵۔ نماز کے ارکان میں ترتیب قائم رکھنا۔ مثلاً قرأت، رکوع، سجدہ وغیرہ ترتیب سے کرنا۔
- ۶۔ رکوع کے بعد قومہ کرنا (سیدھا کھڑا ہونا)۔
- ۷۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا (سیدھا بیٹھنا)۔
- ۸۔ تعدیل ارکان (رکوع، سجدہ، قیام، قعدہ وغیرہ آرام اور سکون سے کرنا)۔
- ۹۔ دو رکعت کے بعد قعدہ کرنا (بیٹھنا)۔
- ۱۰۔ دونوں قعدوں میں تسمیہ (اتحیات) پڑھنا۔
- ۱۱۔ امام مندرجہ ذیل نمازوں میں خیر کرے یعنی اس قدر بلند آواز سے قرأت کرے کہ

دوسرا شخص سن سکے۔

نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان المبارک کے وتر

امام مندرجہ ذیل نمازوں میں آہستہ قرأت کرنے نماز ظہر، نماز عصر

۱۲۔ کم از کم السلام کہہ کر نماز ختم کرنا۔

۱۳۔ نماز وتر میں قنوت کے لئے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔

۱۴۔ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ میں چہ زائد تکبیریں کہنا۔

نوٹ: ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جان بوجھ کر ان میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا جائے تو نماز

نہ ہوگی۔ بخول کر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔

۴۔ سنن نماز

نماز کے وہ عمل جو حضرت رسول کریم ﷺ سے ثابت ہیں۔ ان کا درجہ فرض اور واجب

کے برابر تو نہیں، لیکن چھوڑنے والا تارک سنت اور ملامت کا مستحق، نماز ہو جائے گی۔

۱۔ تکبیر تحریرہ سے قبل دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔

۲۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کٹھالی اور قبلہ رخ رکھنا۔

۳۔ تکبیر تحریرہ کہتے وقت سر نہ ہٹکانا۔

۴۔ امام تکبیر تحریرہ اور دوسری تکبیریں اونچی آواز سے کہے۔

۵۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا۔

۶۔ ثنا پڑھنا۔

۷۔ تہود (أَعُوذُ بِاللَّهِ) پڑھنا۔

۸۔ تسمیہ (بِسْمِ اللّٰهِ) پڑھنا۔

۹۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا۔

۱۰۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔

۱۱۔ ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین آہستہ سے پڑھنا۔

۱۲۔ قرأت سنت کے مطابق کرنا۔

۱۳۔ رکوع وجود میں کم از کم تین بار تسبیح پڑھنا۔

۱۴۔ رکوع میں سر اور پشت کو برابر رکھنا اور دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔

۱۵۔ قوم میں امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ مقتدی ربنا لك الحمد

کہے اور منفرد (تنہا نماز پڑھنے والا) دونوں کلمات کہے۔

۱۶۔ سجدہ میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھے۔

۱۷۔ سجدہ میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنا۔ ہاتھوں کی انگلیاں اور انگوٹھے

کانوں کی سیدھ میں رکھنا۔

۱۸۔ جلسہ اور قعدہ میں اس طرح بیٹھے کہ بائیں پاؤں بچھا ہوا ہو اور دایاں پاؤں اس طرح

کھڑا ہو کہ انگلیوں کے سرے قبلہ کی طرف ہوں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہوں۔

۱۹۔ تشہد (اتحیات) میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا۔

۲۰۔ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔

۲۱۔ درود شرف کے بعد قعدہ اخیرہ میں دعا پڑھنا۔

۲۲۔ سلام پھیرنا۔ پہلے دائیں سمت پھر بائیں سمت۔

۵۔ مستحبات نماز

وہ پانچ باتیں نماز میں جن کی پابندی مستحسن ہے۔

۱۔ تکبیر تحریر کہتے وقت دونوں ہتھیلیاں اسمعیلوں سے باہر نکال لینا۔

۲۔ رکوع اور سجدہ میں تنہا نماز پڑھنے والا تین سے زیادہ مرتبہ تسبیح کہے۔ مثلاً پانچ یا سات

بار۔

۳۔ نگاہ درست رکھنا، یعنی:

قیامت کی حالت میں سجدہ کے مقام پر

رکوع میں اپنے قدموں پر

جلسہ اور قعدہ کے وقت اپنی گود پر

سلام پھیرتے وقت اپنے موٹھوں پر نظر رکھنا

۴۔ کھانسی کو حتی الامکان روکنا

۵۔ جمائی میں منہ بند رکھنا، اگر کھٹل ہی جائے اور قیام کی حالت میں ہو تو دائیں ہاتھ کی

پشت منہ پر رکھ لے۔ قیام کے علاوہ دوسری صورتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر

رکھ لے۔

۶۔ مفسدات نماز

مفسدات نماز ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی ٹوٹ جاتی

ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔

۱۔ نماز میں کلام کرنا، بھول کر یا قصداً، تھوڑا ہو یا زیادہ مفسد نماز ہے۔

۲۔ کسی کو نماز کے دوران سلام کرنا، کسی لفظ سے بھی ہو۔

۳۔ کسی کو سلام کا جواب دینا۔ چھینکنے والے کو یہ **حمت اللہ** کہنا، یا امام کے علاوہ کسی

اور شخص کی دعا پر آمین کہنا۔

۴۔ کسی بُری خبر پر **انا اللہ**، اچھی خبر پر **سبحان اللہ** وغیرہ کہنا۔

۵۔ درد یا رنج کی وجہ سے کوئی کلمہ افسوس کہنا۔

۶۔ اپنے امام کے سوا کسی اور کو قمر دینا (غلطی بتلانا)

۷۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا (اگر وہ آیت دیکھ کر پڑھتا ہے جو پہلے سے یاد تھی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

۸۔ قرآن مجید پڑھنے میں کوئی شدید غلطی کرنا۔ جس سے لفظ کا معنی بگڑ جائے۔

۹۔ عمل کثیر یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ اندازہ کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھا رہا ہے۔

۱۰۔ قصدایا بھول کر نماز میں کھانا پینا۔

۱۱۔ دو صفوں کے برابر چلنا۔

۱۲۔ قبلہ کی طرف سے بلاغذریسینہ پھیر لینا۔

۱۳۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔

۱۴۔ بقدر ایک رکن ستر کھٹلا رہنا۔

۱۵۔ ورد یا مصیبت کے سبب یوں روننا کہ حروف ظاہر ہو جائیں۔

۱۶۔ نماز میں قہقہہ مار کر یا آواز سے ہنسا۔ اگر ایسے قہقہہ مارا کہ پاس والے بھی سن لیں تو وضو بھی جاتا رہا۔ (مدیہ المصلیٰ)

۱۷۔ امام سے آگے بڑھ جانا۔

معدلات نماز کے متفرق مسائل:

☆ نماز میں اللہ اکبر کہتے وقت اگر الف کو بڑھا دیا یعنی اللہ کے بجائے اللہ یا

اکبر کو اکبر کہہ دیا یا اکبار کہہ دیا تو نماز نہ ہوگی۔

☆ سجدہ کی جگہ پاؤں کی جگہ سے اونچی نہیں ہونی چاہئے۔ ایک ہاتھ کی حد تک جائز

ہے۔ لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔

☆ نماز میں جنت دوزخ کے خیال سے یا قرأت سے دل بھر آئے اور رقت طاری

ہو جائے یا آہ بھی منہ سے نکل جائے تو نماز نہیں گئی۔

☆ نماز میں خود کو چھینک آئے اور بے ساختہ الحمد للہ زبان سے نکل جائے تو نماز

نہیں گئی۔

عورت کا مرد کے ساتھ کھڑا ہونا:

- ☆ عورت، محرم ہو یا نامحرم، اگر مرد کے ساتھ یا برابر کھڑی ہو جائے تو مندرجہ ذیل صورتوں میں اس سے مرد کی نماز قاسد ہو جاتی ہے۔
- ☆ عورت بالغ ہو خواہ جوان ہو یا بوڑھی، خواہ ماں، بہن، بیوی ہی کیوں نہ ہو، ایسی نابالغ، جس کی طرف رغبت ہوتی ہو۔
- ☆ دونوں نماز پڑھ رہے ہوں۔
- ☆ درمیان میں کوئی پردہ وغیرہ حائل نہ ہو، یا بیچ میں ایک آدمی جتنا قاصد نہ ہو۔
- ☆ عورت نماز پڑھنے کے قابل ہو (مثلاً حیض و نفاس میں نہ ہو، پاگل نہ ہو)
- ☆ عورت آگے یا برابر اس طرح کھڑی ہو کہ اس کا قدم (اور پٹلی) مرد کے جسم کے کسی حصہ کے مقابل ہو جائے۔

۷۔ مکروہات نماز

- بعض امور نماز میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ ان کا ترک کرنا ابدان سے پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ بطور مثال ہم بعض کی نشاندہی کرتے ہیں۔
- ۱۔ لباس بلور کپڑوں کے سلسلہ میں:
- ☆ کپڑے غیر ضروری طرز پر لٹکانا، مثلاً چادر کے دونوں سرے لٹکائے رکھنا، یا رومال وغیرہ پونہی کا نمٹھوں پر ڈال لینا۔
- ☆ نماز کے دوران کپڑے سیٹنا یا ہاتھ سے دوکنا۔
- ☆ اپنے کپڑوں سے کھیلنا، چادر وغیرہ اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکیں۔
- ☆ ٹہنیاں کھلی رکھنا (مردوں کا) اپنے ٹخنوں کو پا جامہ وغیرہ سے ڈھکے رکھنا۔

☆ جاندار کی تصویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا۔

☆ میلے گھیلے یا ایسے پڑے پہن کر نماز پڑھنا، جنہیں پہن کر جمع میں جانا پسندیدہ نہ ہو۔

۲۔ اعضاء بدن کے سلسلہ میں:

☆ بالوں کو منہ پر جمع کر کے جوڑا باندھنا۔

☆ انگلیاں چٹکانا،

☆ کمر، کونکھ یا کولہے پر ہاتھ رکھنا،

☆ آنکھیں بند رکھنا

☆ اگڑائی لینا، یا بالخصوص جمائی لینا، نیز جمائی روکنے کی کوشش نہ کرنا

۳۔ فلا حرکات کی صورت میں:

☆ مرد اپنی کلائیوں زمین پر بچھالے،

☆ ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا،

☆ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا، یا نماز میں ہلنا،

☆ سجدہ کی جگہ سے نکلنا یا ہٹانا،

☆ بلا قدر آلتی پالتی مار کر بیٹھنا،

۴۔ امام اور مقتدی کے لئے:

☆ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا یعنی قدم بھی محراب کے اندر رکھنا،

☆ امام کا اپنے مقتدیوں سے ایک ہاتھ اونچی جگہ کھڑا ہونا،

☆ امام کا اس قدر جلد جلد نماز پڑھنا کہ مقتدی تسبیح وغیرہ نہ پڑھ سکیں،

- ☆ مقتدیوں کا دائیں یا بائیں کسی ایک طرف زیادہ ہونا،
- ☆ مقتدیوں کا درمیان میں فاصلہ چھوڑ کر کھڑا ہونا،
- ☆ مقتدی کا اگلی صف میں خالی جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں اکیلے کھڑا ہونا،
- ☆ مقتدی کا امام سے پہلے کوئی فعل کرنا۔
- ۵۔ دیگر مکروہات:
- ☆ پیشاب یا قضاے حاجت یا رتغ زوک کر نماز پڑھنا،
- ☆ تسبیحیں یا آیات وغیرہ انگلیوں پر شمار کرنا،
- ☆ نماز میں خلاف سنت کوئی کام کرنا،
- ☆ نماز عشا سے قبل سونا۔

قرأت (فاتحہ کے بعد سورۃ)

چند ضروری مسائل

واجب:

- ۱۔ سورۃ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔
- ۲۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ یا آیت فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعات کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔

قرأت مستنون:

- ۱۔ امام ہو یا منفرد ایک مقیم نمازی کے لئے سورۃ فاتحہ کے بعد مندرجہ ذیل سورتوں کی تلاوت کرنا مستنون ہے۔

(الف) نماز فجر اور نماز ظہر میں طوال مفصل یعنی تیسویں پارہ کی سورۃ الحجرات سے تیسویں

پارہ کی سورۃ نوح تک (۴۹ نمبر سے ۸۵ تک)

(ب) نماز عصر اور نماز عشا میں اوساط مفصل یعنی تیسویں پارہ کی سورۃ طارق سے سورۃ البینہ

تک (۸۶ نمبر سے ۹۸ تک)

(ج) نماز مغرب میں قصار مفصل یعنی آخری پارہ کی سورۃ الزلزال سے آخری سورۃ الناس

تک (۹۹ سے ۱۱۴ تک)

لیکن یہ ضروری نہیں ہے، مسنون ہے۔ جو سورۃ بھی یاد ہو پڑی جاسکتی ہے۔ اپنی

طرف سے کوئی خاص سورۃ مقرر کرنا بہتر نہیں۔

کوئی شخص لسیان کی وجہ سے اگر اکثر نماز کی رکعات محمول جاتا ہو، اور یاد نہ رہتا ہو۔

کتنی پڑھ لی ہیں۔ تو ایسی حالت میں سورۃ مقرر کر کے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

۲۔ فجر کی سنتوں میں قرأت مسنونہ یہ ہے:

پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص (قل هو اللہ)

۳۔ نماز وتر کے لئے مسنون قرأت یہ ہے:

پہلی رکعت میں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون

تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص

ترتیب:

سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملاتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیے۔

۱۔ دوسری رکعت میں سورۃ یا آیت پہلی رکعت کے برابر یا چھوٹی ہو، بڑی نہ ہو۔

۲۔ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق یعنی اول سے آخر کی طرف والی سورۃ یا آیت ملائیں، ترتیب الٹی نہ کریں۔

۳۔ بہتر ہے کہ مسلسل سورۃ میں یا آیات ملائیں۔ دانستہ درمیان سے کوئی آیت چھوڑ کر ملانا مکروہ ہے۔

ان مسائل کی حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مضامین پر مسلسل نظر رہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی ترتیب حضرت رسول کریم ﷺ نے وحی الہی کے مطابق کی ہے۔

بجہ بھوک کے مسائل

”سو“ کے معنی بھول چوک کے ہیں۔ ”بجہ سو“ وہ بجہ ہے جو نماز کے کسی واجب میں بھول چوک ہو جانے پر ادا کیا جاتا ہے۔

بجہ سو کب؟

بجہ سو ان صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے جبکہ

۱۔ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولنے سے چھوٹ جائے۔

۲۔ کسی واجب میں کمی یا زیادتی ہو جائے۔

۳۔ کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے۔

۴۔ کوئی فرض یا واجب مکرر ہو جائے۔

ان باتوں کو بھول کر کرنے سے ”سجدہ سہو“ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن قصداً کی جائیں تو سجدہ سہو سے نقصان ڈور نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔

سجدہ سہو کا طریقہ:

سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قصداً اخیرہ میں تشہد (اتحیات) پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرے..... پھر سجدہ کرے..... اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھے..... اس کے بعد دونوں طرف حسب قاعدہ سلام پھیر دے۔

اگر بخول کر کسی نے بغیر سلام پھیرے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہو گیا اور نماز صحیح ہوگی۔ لیکن قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے۔

(در مختار وغیرہ)

سجدہ سہو کن حالات میں؟

مصنوعی حالتوں میں سجدہ سہو لازم آتا ہے:

(الف) قاتحہ:

اگر بخولے سے قاتحہ کی جگہ سورہ پڑھ لی، یا سورہ کی جگہ قاتحہ پڑھ لی یا سورہ قاتحہ پڑھتے ہوئے سہو ہو جائے یا زیادہ حصہ کو دوہرا پڑھے یا سورہ قاتحہ کی کوئی آیت سرے سے پڑھنا ہی بخول جائے یا فرض نماز کی پہلی دو رکعات میں اگر بخول کر سورہ قاتحہ دو بار پڑھ لے۔

(ب) سورہ:

اگر بخولے سے سورہ کی جگہ قاتحہ پڑھ لی۔

فرض نماز کی پہلی دو رکعات میں اور ہاتھی واجب، سبقت، لعل، تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ طہا واجب ہے۔ لہذا اگر کسی رکعت میں سورہ پڑھنا بخول جائے تو سہو سہو کرے۔

فرض نماز کی پہلی ایک یا دو رکعات میں سورہ پڑھنا بخول جائے تو بعد کی رکعات میں سورہ پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے۔

اگر امام نے آہستہ آواز کی فرض نماز میں بلند آواز سے قرأت کر لی، یا بلند آواز کی نماز میں آہستہ قرأت کر لی تو سجدہ سہو کرنا چاہئے۔ دو تین الفاظ پڑھ لینے پر واجب نہیں۔ ان حالتوں میں سجدہ سہو لازم نہیں:

فاتحہ (الحمد) کے بعد بقدر ضرورت یعنی تین چھوٹی یا ایک بڑی آیت پڑھنے کے بعد کہیں رک جائے اور رکوع میں چلا جائے، یا کوئی سورۃ دو بار پڑھ لے۔ یا متشابہ لگ جائے کہ ایک آیت کے بعد قرآن شریف کی کوئی دوسری آیت پڑھ جائے۔

(ج) سجدہ

اگر نماز میں ایک سجدہ محمول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت دوسرا سجدہ کر لے اور پھر اسی رکن سے نماز شروع کر دے جہاں سجدہ کیا ہو اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔

(د) قعدہ (جلسہ):

اگر چار رکعت والی نماز میں بھول کر پہلی یا تیسری رکعت میں بیٹھ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ البتہ اگر بیٹھنے ہی کھڑا ہو گیا تو واجب نہیں۔

اگر تین یا چار رکعات والی فرض یا واجب نماز میں دو رکعت کے بعد قعدہ کے لئے بیٹھنا بھول گیا، اور کھڑا ہونے لگا، مگر سیدھا کھڑا ہونے سے قبل ہی بیٹھ گیا تو سجدہ سہو لازم نہیں..... لیکن سیدھا کھڑا ہو گیا تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ چاروں رکعات پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔

اگر فرض اور واجب نمازوں کے علاوہ سنن یا نوافل ہوں اور دوسری رکعت کے بعد قعدہ کے لئے نہ بیٹھا ہو تو یاد آنے پر بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر لے..... اگر تیسری رکعت کے درمیان میں یاد نہ آئے بلکہ آخر وقت میں یاد آئے تو بھی سجدہ سہو کر لے۔

اگر فرض یا واجب نمازوں کی آخری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے تو سجدہ میں جانے سے قبل جب بھی یاد آئے بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر لے..... اگر یاد نہ آیا اور پانچویں

رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو نماز دوبارہ ادا کرنا ہوگی اور یہ نماز نفل ہو جائے گی۔

اگر سب مؤکدہ میں یہ صورت ہو جائے تو چار سب مؤکدہ صحیح ہو جائیں گی اور زائد

پڑھی ہوئی دو رکعت نفل شمار ہوں گی۔

اگر چوتھی رکعت میں قعدہ کیا، اتحیات بھی پڑھ لی، مگر بھول کر کھڑا ہو گیا تو سجدہ کرنے

سے قبل جب یاد آئے بیٹھ جائے اور سلام پھیر کر سجدہ نہ ہو کر لے۔

☆ تشہد (اتحیات):

اگر نماز کے کسی قعدہ میں اتحیات کے بعد سورہ فاتحہ (تین لفظ تک بھی پڑھ لے) تو

سجدہ نہ ہو واجب ہوگا۔ یا

پہلے قعدہ میں اتحیات دوبارہ آدمی سے زیادہ پڑھ لی تو سجدہ نہ ہو واجب ہوگا، آخری

قعدہ میں پڑھنے سے نہیں۔

☆ درود شریف:

نوافل کے علاوہ دوسری نمازوں کے درمیانی قعدہ میں اتحیات کے بعد درود پڑھنے

سے سجدہ نہ ہو واجب ہو جاتا ہے۔

☆ قنوت:

اگر نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور رکوع میں چلے

جائیں تو لوٹ کر پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ بعد میں سجدہ نہ ہو کر لیں۔

بھول کر دعائے قنوت لوٹا کر پڑھنے یا دوبارہ پڑھنے سے سجدہ نہ ہو واجب نہیں ہوتا۔ اسی

طرح نماز وتر میں دعائے قنوت کی جگہ بھول کر کچھ اور پڑھ لینے سے بھی سجدہ نہ ہو واجب نہیں ہوتا۔

☆ سلام:

تین یا چار رکعات والی نماز میں اگر قعدہ اولیٰ (دور کعت) پڑھ کر ہی بٹھولے سے پھیر دیا، تو جب تک کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جس سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ (مثلاً کھڑکی، یا قبلہ سے رخ پھیر گیا) تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو کر باقی نماز پوری کر لیں اور آخر سجدہ سہو کر لیں۔

☆ درمیان میں تاخیر:

اگر نماز کے درمیان کسی جگہ رُک گیا، اور کچھ دیر کے لئے کسی سوچ میں پڑ گیا تو آخر سجدہ سہو کر لے۔

☆ سجدہ سہو کی بٹھول:

نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی، جس پر سجدہ سہو واجب تھا لیکن قعدہ اخیرہ میں تو (انتہیات) پڑھنے کے بعد یاد آیا تو اس وقت سجدہ سہو کر لیں۔

اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو جھک کوئی ایسی بات سرزد نہ ہوئی تو جس سے نماز ہو جاتی ہے، یاد آنے پر فوراً سجدہ سہو کر لیں۔

نماز میں ایسی کئی غلطیاں ہو جائیں جن پر سجدہ سہو لازم آتا ہے تو ان سب کے ایک ہی سجدہ سہو کافی ہے۔

قضا نماز کی ادائیگی

قضا نماز کی ادائیگی کا طریقہ:

نجر کی نماز نہ جائے تو زوال سے قبل دو سنت اور دو نفل پڑھ لیں۔ زوال کے بعد صراحتاً دو فرض ادا ہوں گے۔

ظہر یا عصر کی نماز قضا ہونے پر صرف چار فرض ہیں۔

مغرب کی نماز قضا ہونے پر تین فرض اور عشاء کی نماز رہ جائے تو چار فرض اور تین وتر

پڑھنے چاہئیں۔

قضا نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہئے کہ میں فلاں دن کی فلاں نماز (مثلاً فجر یا ظہر وغیرہ) قضا پڑھتا ہوں۔ یعنی دن اور وقت دونوں کی نیت کرے۔ اگر بدقسمتی سے کسی کی بہت سی نمازیں رہ گئی ہوں اور دن یاد نہ ہوں تو یوں نیت کرے کہ میرے ذمے فلاں دن کی (مثلاً فجر یا ظہر وغیرہ) کی جس قدر نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی نماز قضا پڑھتا ہوں، یا ان میں سے آخری نماز قضا پڑھتا ہوں۔

قضا نماز ہر جگہ ادا کی جاسکتی ہے، لیکن گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے دوسروں سے اپنی قضا ادا کرنے کا ذکر کر وہ اور نا پسندیدہ ہے کیونکہ اس سے نماز کی تخفیف اور غفلت کا ایک پہلو نکلتا ہے۔

کن نمازوں کی قضا؟

نماز فرض نمازوں کی قضا فرض ہے،

ہر واجب کی قضا واجب ہے،

بعض سنتوں کی قضا بھی مسنون ہے۔ مثلاً فجر کی سنتیں فجر کے فرضوں سمیت قضا

ہو جائیں تو زوال سے پہلے فرضوں کے ساتھ سنتیں بھی پڑھ لیں۔ اگر زوال سے قبل نہ پڑھ سکیں تو

زوال کے بعد صرف فرضوں کی قضا کریں۔

ظہر کی پہلی چار سنتیں رہ جائیں تو فرضوں کے بعد پڑھ لیں، خواہ دو سنتوں سے پہلے یا

دو سنتوں کے بعد۔

قضا نماز کب ادا کی جائے؟

اگر کسی وجہ سے کوئی نماز شوخی قسمت سے رہ جائے تو اولین فرصت میں اس کو ادا کر چاہئے..... دوسرے یہ کہ قضا نماز ادا نماز سے پہلے پڑھ لینی چاہئے۔

اگر وقت بہت تنگ ہو اور اندیشہ ہو کہ اگر پہلے قضا پڑھے گا تو ادا نماز کا وقت باقی رہے گا تو پہلے ادا پڑھ لے، قضا بعد میں ادا کرے۔

اگر کئی نمازیں رہ جائیں تب بھی جلدی سب کی قضا کر لے۔ ہو سکے تو ایک ہی وقت سب پڑھ لے، ضروری نہیں کہ ہر نماز کی قضا اس کے وقت پر ہی پڑھی جائے۔

نمازوں کا فدیہ

کسی شخص کی کچھ نمازیں قضا ہو گئیں اور آخر تک انہیں ادا کرنے کی نوبت نہ آئی تو لازم ہے کہ مرتے دم قضا نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر جائے مرنے والے کے ولی (وارث) کی ذمہ داری ہوگی، کہ کفن، دفن اور قرض ادا کر کے جتنا مال بچے اس کے تہائی میں سے فدیہ ادا کر دے۔

دن رات کی پانچ فرض اور ایک واجب وتر یعنی چھ نمازوں کا فدیہ پونے دو سیر فی نماز کے حساب سے ساڑھے دس کلو گرام یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔

یا در ہے کہ اپنی زندگی میں نمازوں کا فدیہ دینا درست نہیں بوڑھے اور ضعیف بھی نماز ادا کریں، خواہ اشارہ سے ہو، البتہ اگر اشارہ سے بھی ادا کرنا ممکن نہ رہے اور بالکل عاجز ہو جائے، زندگی کی امید نہ رہے تو اس کے لئے جواز ہے۔

نماز توڑنے کے مسائل

فرض:

☆ انسانی جان بچانے کے لئے نماز توڑ دینا فرض ہے، مثلاً کسی بچے کے کپڑوں میں آگ

لگ گئی اور وہ چلنے لگا،

☆ کوئی نابینا جا رہا ہے اور آگے کنواں ہے، اور اس میں نابینا کے گر پڑنے کا ڈر ہے،

☆ والدین، اساتذہ یا دوسرے عزیز کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں، ایسی صورتوں میں

نماز توڑ کر مدد کرنا فرض ہے۔ اگر اس میں نماز نہ توڑی اور کسی کی جان جاتی رہی تو وہ

گنہگار ہوگا۔

اجازت:

ان حالات میں نماز توڑنے کی اجازت ہے:

☆ کسی قیمتی شے کے ضائع ہو جانے یا خراب ہونے کا اندیشہ ہو،

☆ نماز پڑھ رہے ہوں اور ریل گاڑی یا جہاز وغیرہ چل پڑے،

☆ نماز میں قضائے حاجت (پیشاب، پاخانہ) کا زور ہو جائے،

☆ کوئی موذی جانور یا سانپ، بچھو وغیرہ سامنے آجائے، جس سے جان کے نقصان اور

ایذا کا اندیشہ ہوتا ہے۔

گنہگار کون:

کسی شخص کے آگے سے گزرنے سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا،

نہ نماز ٹوٹی ہے، نہ ثواب میں کمی آتی ہے..... البتہ بلا عذر گزرنے والا خود گنہگار ہوتا ہے

اس بارہ میں حضرت رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد کس قدر قابل توجہ ہے:

”اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے

نزدیک چالیس برس تک کھڑا رہنا سامنے نکلنے سے بہتر ہوتا۔“

(مشکوٰۃ شریف)

سُترہ (آٹ):

جہاں کوئی آٹ نہ ہو، مثلاً جنگل یا کھلے میدان میں نماز ادا کر رہے ہوں تو نمازی کو

چاہئے کہ اپنے سامنے "سُترہ" گاڑ لے یا کھڑی کر لے۔ یعنی ایسی لکڑی، بانس یا چھڑی وغیرہ جو
از کم ایک ہاتھ لمبی اور تقریباً ایک انگل موٹی ہو، یا اسی طرح کی کوئی اور چیز سامنے رکھ کر نماز
پڑھے۔

امام کا "سُترہ" مقتدیوں کے لئے کافی ہے۔ بڑا مقصد تو یہ ہے کہ کوئی گزر نیوالا بالکل
سامنے سے نہ گزرے۔

نماز کی صحت کے لوازم

قیام کے آداب:

- ۱۔ نماز میں قیام کے دوران دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے اس طرح باندھیں کہ داہنے
ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح ہو کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھینگی کا
حلقہ بنا کر کلائی کو پکڑ لیں اور باقی تین انگلیوں کو بائیں کلائی پر پھیلا دیں۔
- ۲۔ قیام کے دوران نگاہ سجدہ کے مقام پر رہے۔ انشاء اللہ اس سے دھیان ادھر ادھر نہ
ہوگا۔

رکوع کے آداب:

- ۱۔ رکوع کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھے جائیں کہ
گھٹنوں میں خم نہ آئے، کمر اور سر بالکل ہموار ہوں یعنی پوری طرح ٹھکیں۔ لیکن نہ
اس قدر کہ سر کمر سے بھی نیچا ہو جائے۔
- ۲۔ رکوع کی حالت میں نمازی کی نظر پاؤں کی پشت پر رہے نہ کہ سجدہ کی جگہ۔ ادھر ادھر نہ
دیکھے۔

قومہ کے آداب:

- ۱۔ رکوع کے بعد (سجدوں سے قبل) کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نمازی بالکل

سیدھا کھڑا ہو، کسی عذر کے بغیر اگر کمر میں خم رہ گیا تو قومہ کا حق ادا نہ ہوگا۔

۲۔ قومہ کے لئے سکون کے ساتھ کم از کم اتنی دیر کھڑا رہنا ضروری ہے کہ ایک بار

سُبْحَانَ اللَّهِ کہا جاسکے۔

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کی تسبیح کی غایت ہی یہ

ہے کہ نمازی پورے سکون کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا کرے۔

سجدہ کے آداب:

۱۔ سجدہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قومہ کے بعد پہلے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کو جائے

نماز پر لگا دیں۔ اس کے بعد ہاتھ جائے نماز پر رکھیں پھر ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ

دیں۔

پہلے دونوں ہاتھ زمین پر نکانا اور گھٹنے بعد میں رکھنا درست طریقہ نہیں۔

۲۔ سجدہ میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے تہ بند یا پاجامہ وغیرہ کو اوپر کھینچنے کی عادت

غلط ہے۔ خطرہ ہے کہ یہ صورت ”عمل کبیر“ کی زد میں آکر نماز کو خراب نہ کر دے۔

۳۔ سجدہ کی حالت میں کلائی سے گہنی تک کا حصہ زمین پر نہ ٹکیں۔ نیز دونوں بازو جسم سے

علیحدہ رکھیں۔ کہنیوں کو پیٹ اور رانوں کے درمیان نہ دبائیں اور انگلیاں سیدھی قبلہ

رخ رکھیں، پاؤں زمین سے بلند نہ کریں۔

۴۔ سجدہ پورے سکون کے ساتھ کریں، اللہ کے حضور اس سے زیادہ عاجزی کا مقام اور

کوئی نہیں۔ سجدہ میں اپنے عجز و نیاز اور اللہ جل شانہ کی عظمت کا جس قدر خیال زیادہ

ہوگا سجدہ کا حق ادا ہوگا۔

جلسہ کے آداب:

- ۱۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ”جلسہ“ کہلاتا ہے۔ اس وقفہ میں سکون کے ساتھ کم از کم اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ کہا جاسکے۔
- ۲۔ جلے میں دونوں پاؤں کھڑے رکھنا مکروہ ہے۔ بلکہ وایاں پاؤں سیدھا رکھ کر بائیں پاؤں پر سکون کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ اس دوران نظر اپنی آغوش کی طرف رہے۔
- ۳۔ جلسہ میں بیٹھ کر قمیض درست کرنا ٹھیک نہیں۔ ایسا کرنے سے توجہ نماز کے بجائے لباس کی طرف رہتی ہے۔ ارشاد نبویؐ یہ ہے کہ سجدہ کے بعد جلسہ کے لئے اس طرح سیدھے ہو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ میں بیٹھ گیا ہوں۔

مسافر کی نماز

(قصر نماز)

سفر کے دوران ظہر، عصر اور عشاء کے چار فرضوں کی بجائے دو رکعت فرض پڑھے جاتے ہیں۔ یہ نماز قصر کہلاتی ہے۔ اس سہولت سے قائدہ نہ اٹھانا کفرانِ نعمت اور حکمِ الہی کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔

سفر کا تعین:

سفر سے مراد ہے اتنی دور جانے کے ارادہ سے نکلنا، جہاں آدمی تین دن میں پہنچ سکے۔

تین دن میں پہنچنے سے مراد یہ نہیں کہ مسلسل تین دن چل کر پہنچے، بلکہ روز اتنا صبح سے زوال کے وقت تک اوسط درجہ کی عام رفتار سے پیدل چلنا مراد ہے۔ بالفاظ دیگر تین منزل کی مسافت معتبر ہے۔

لیکن آسانی کے لئے فقہاء نے اڑتالیس میل کے فاصلے کو متعین کیا ہے۔

یاد رہے سفر میں مسافت کا اعتبار ہے، وقت کا نہیں۔ یعنی فیصلہ کن امر یہ ہے کہ سفر اڑتالیس میل کا ہے یا نہیں (تقریباً سو اسٹریٹ کلومیٹر) نہ یہ کہ فاصلہ کتنی دیر میں طے ہوگا۔ اگر ۴۸ میل کا فاصلہ آدی بوٹر کار، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز کے ذریعہ کتنی ہی جلدی طے کر لے، یہ سفر میں شمار ہوگا۔

قصر نماز کس قدر؟

فقہاء کا فتویٰ ہے کہ لاعلمی سے بھی اگر سفر میں پوری رکعتیں پڑھ لیں تو ایسی نمازوں کو دوبارہ قصر پڑھنا واجب ہوگا۔

(شرح البدایہ)

اگر محمول کر قصر کی دو کے بجائے چار رکعات پڑھ لیں، آخر میں یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر لیں، دو رکعت فرض ہو جائیں گی، دو نفل بشرطیکہ دو رکعت کے بعد قعدہ کر کے اتحیات پڑھ لی تھی۔ سفر میں اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سوا دوسری سنتیں اور نفل چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر جلدی نہ ہو تو تمام سنتیں پڑھ لیں ان میں قصر نہیں ہے۔

قصر نماز کب تک؟

جب تک آدی سفر میں رہے خواہ کتنی مدت ہی ہو جائے اس وقت تک نماز قصر کرنا رہے۔ اگر کہیں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تو اس وقت سے پوری نماز ادا کرنا ہوگی۔

اگر منزل مقصود پر پہنچنے سے قبل راستہ میں کہیں ٹھہر جائے اور پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو یہ قیام بھی سفر شمار ہوگا۔ لیکن نیت پندرہ دن یا اس سے زیادہ کی ہو تو پوری نماز ادا کرنا

ہوگی۔

مقتدی مسافر، امام مقیم:

مسافر مقتدی مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں البتہ اس صورت میں مسافر مقتدی کو امام کی اقتداء میں دو فرض کی بجائے چار رکعات ہی ادا کرنا ہوں گی۔ اگر مسافر مقتدی، مقیم امام کے پیچھے درمیان میں شریک جماعت ہو تو اس صورت میں بھی باقی پوری نماز ایک مقیم کی طرح ادا کرے نہ کہ مسافر کی طرح قصر۔

مقتدی مقیم، امام مسافر:

مسافر امام اپنی دو رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے اور اعلان کر دے کہ میں مسافر ہوں، تم اپنی نماز پوری کر لو۔ یہ اعلان نماز سے پہلے کر دینا بھی بہتر ہے۔

مقیم مقتدی سلام پھیرنے کے بغیر کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی دو رکعت پوری کر لیں۔ ساتھ قعدہ میں اتحیات پڑھ کر خاموش رہیں، جب مسافر امام دائیں طرف سلام پھیر دے تو یہ کھڑے ہو کر اپنی باقی رکعات الگ الگ پوری کر لیں، ایک ساتھ نہیں۔ بغیر کچھ پڑھے اندازہ سورۃ فاتحہ قیام کریں۔

سفر اور وطن کی قسمیں:

اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ وطن کی دو صورتیں ہیں۔

۱۔ وطن اصلی

۲۔ وطن اقامت

وطن اصلی:

وطن اصلی وہ ہے جہاں پیدا ہوا یا جس جگہ مستقل گھر بنا لیا ہو، اور بیوی بچوں سمیت وہاں مستقل رہنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ مثلاً کراچی کا باشندہ کراچی چھوڑ کر کاروبار کی غرض سے یا بسلسلہ ملازمت یا کسی اور وجہ سے مستقل طور پر ملتان آ کر رہنے لگے..... اس صورت میں سے کم مدت کے لئے جائے گا تو نماز قصر کرے گا۔

وطن اقامت:

وطن اقامت وہ ہے جہاں پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت سے رہنے لگا۔ خواہ یہ قیام کسی فرض سے اور کسی وجہ سے ہو۔ اس صورت میں اس عارضی قیام والے وطن میں پوری نماز ادا کرے گا۔ مثلاً اگر ایک شخص کراچی کا مستقل باشندہ ہو اور کسی فرض سے کراچی چھوڑ کر تنہا ملتان رہنے لگے۔ لیکن اس کے بال بچے کراچی ہی ہوں۔ تو اس صورت میں اگر وہ پندرہ دن سے کم مدت کے لئے بھی کراچی جائے گا تو پوری نماز ادا کرے گا۔

مسافر کی قضا نماز:

اگر دوران سفر کوئی نماز فوت ہوگئی، تو گھر پہنچ کر وہ قضا نماز قصر ہی ادا کرنا ہوگی۔

مسافر عورت کی نماز:

شادی کے بعد اگر عورت مستقل طور پر سسرال میں رہنے لگی تو اس کا وطن اصلی سسرال کا گھر ہے۔ اگر یہاں سے پندرہ روز سے کم مدت کے لئے ماں باپ کے گھر جائے تو مسافر رہے گی اور نماز قصر کرے گی۔

اگر سسرال میں قیام مستقل نہیں تو ماں باپ کا گھر ہی وطن اصلی رہے گا۔

(دارالافتاء)

عورتوں کی نماز

نماز پڑھنے کا اعزاز:

عورتوں کے لئے نماز پڑھنے کا درست انداز یہ ہے:

☆ تکبیر تحریمہ کے وقت دوپٹہ یا چادر سے ہاتھ باہر نکالے بغیر کاندھوں تک نلے جائیں۔

☆ سینہ پر دائیں ہتھیلی اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھیں۔

☆ رکوع میں اس قدر جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ انگلیاں گھٹنوں پر ملا کر رکھیں، گہنیاں پہلو سے ملی ہوئی ہوں۔

☆ سجدہ میں پیٹ رانوں سے، اور بازو و بغل سے طے ہوئے ہوں اور بازو زمین پر رکھے

ہوں، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں، مگر پاؤں کھڑے نہ کریں، بلکہ دائیں طرف کو نکال لیں۔

☆ جلسہ اور قعدہ میں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھیں، بائیں حصہ کے بل پیشیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیں۔

لباس اور پردہ:

☆ ایسا باریک کپڑا پہننے سے جس میں بدن جھٹکتا ہو، یا سر کے بال کھلے رہتے ہوں نماز نہیں ہوتی۔

☆ سر کے بال کھلے چھوڑ دینے اور بازو کھلے رکھنے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔

☆ عجمت ضرورت پردہ کے لئے بڑا قعدہ اوڑھ کر، اور چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ عام حالات میں چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

☆ عورتوں کو نماز فجر مردوں کے برخلاف صبح اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے۔

عورتوں کی جماعت:

☆ عورتوں پر نماز باجماعت واجب نہیں۔

☆ عورتوں کو اذان اور اقامت کہنا جائز نہیں۔

(عالمگیری)

☆ عورتوں کی اپنی جماعت مکروہ ہے، تاہم اگر جماعت کریں تو مرد کی طرح عورت امام آگے نہ کھڑی ہو بلکہ اگلی صف کے درمیان کھڑی ہو۔

☆ تکبیر اور قرأت میں آواز زیادہ بلند نہ رکھے جس سے فتنہ کا اندیشہ ہو۔

بچوں کی نماز

بچوں کو ابتدائے عمر ہی میں نماز سکھانا اور ان کے دلوں میں نماز کا شوق پیدا کرنا والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ بڑے ہو کر ان کا نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ بچپن سے انہیں نماز کا عادی بنایا جائے۔ حکم ہے کہ جب بچے سات برس کے ہو جائیں تو والدین ان سے نماز پڑھوائیں۔ جب دس برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو سزا دے کر نماز پڑھوائیں۔ بستر علیحدہ کرویں اور تنہا سلائیں۔

بلوغت اور نماز کی فرضیت:

☆ بالغ ہو جانے پر نماز روزہ غرض تمام احکام شریعت فرض ہو جاتے ہیں۔

☆ بالعموم لڑکی نو برس سے پہلے اور لڑکے بارہ برس سے قبل بالغ نہیں ہوتے۔

☆ بالغ ہونے کی علامات مندرجہ ذیل ہیں، ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو بلوغت ہو جاتی ہے۔

- احکام ہونا یا شہوت (نفسانی خواہش) کے ساتھ منی کا نکلنا،

- پندرہ برس کی عمر ہو جانا،

- (لڑکی کے لئے) حیض کا آنا۔

پاگلٹ:

☆ (ہوائی جہاز چلانے والا) نماز کے وقت اپنے مددگار پاگلٹ کو ڈیوٹی سپرد کر کے نماز پڑھے۔

☆ اگر مددگار پاگلٹ موجود نہ ہو اور زمین پر اترتے وقت تک نماز فوت ہو جانے کا احتمال ہو تو اپنی اسی مقید اور محمد ود حالت میں نماز کی نیت کر لے، اور فرائض و واجبات جیسے بھی ادا کر سکتا ہو کر لے خواہ اشاروں سے ہوں۔

☆ اگر ضروری ہوائی پیغامات لینے دینے کی وجہ سے نماز کا تسلسل نہ رہ سکتا ہو تو معذور ہے۔ اس صورت میں بعد میں ادا کرنے کی اجازت ہے۔

☆ نماز قصر کے احکام بری، بحرئی اور فضائی سفر کے یکساں ہیں۔

نماز جمعہ کی فرضیت اور تاکید:

مَنْ تَرَكَ فَكَفَّرَ جَمْعَ تَهَاوُتِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ۔

”جس شخص نے محض سُستی اور سہل انگیزی کے سبب تین جمعے قضا کر دیئے، اللہ تعالیٰ

اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔“

اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز ہے یہ اعلان جس کے راوی حضرت عبد اللہ بن عمر اور

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جیسے صحابی ہیں..... وہ بیان کرتے ہیں ہم نے خود سنا ہے کہ رسول اللہ

ﷺ پر مہر فرما رہے تھے۔

”نماز جمعہ ترک کرنے والے لوگ اپنی اس حرکت سے باز آجائیں ورنہ اللہ ان کے

دلوں پر مہر لگا دے گا۔ پھر وہ غفلت شعاروں میں سے ہو جائیں گے۔“

(صحیح مسلم)

شرائط جمعہ:

نماز جمعہ کی شرائط یہ ہیں:

۱۔ شہر یا شہر کے قائم مقام ایسا بڑا گاؤں یا قصبہ، نیز شہر کے مضافات کی ایسی آبادی جس

سے شہر کی ضروریات وابستہ ہوں..... (گو یا چھوٹے گاؤں میں جمعہ ورنہ

نہیں)

۲۔ ظہر کا وقت ہونا۔

۳۔ نماز سے پہلے خطبہ۔

۴۔ نماز باجماعت

۵۔ نماز کے لئے اِذْنِ عام۔

نماز جمعہ کی تیاری:

☆ ایک مرتبہ جمعہ کو خطاب کرتے ہوئے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا:

”مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کو روزِ عید بنایا ہے۔ اس دن غسل کیا کرو، جس کے پاس خوشبو ہو، اس کے خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں اور مسواک اس دن ضرور کیا کرو۔“

☆ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خود سرورِ کائنات ﷺ جمعہ کے دن ایک خاص جوڑا پہنا کرتے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو ہم اس کو تہہ کر کے رکھ دیتے اور پھر وہ اگلے جمعہ کو ہی نکلتا تھا۔“

(طبرانی معجم صغیر)

گویا میسر ہو تو نماز جمعہ کا خصوصی اہتمام یہ ہے:

☆ غسل بطور خاص کیا جائے،

☆ مسواک کی جائے،

☆ خوشبو میسر ہو تو ضرور لگائی جائے،

☆ ممکن ہو تو جمعہ کے لئے کپڑوں کا خاص جوڑا رکھا جائے، صفائی اور پاکیزگی کا خاص

اہتمام کیا جائے۔ مثلاً ناخن اور مونچھیں تراشنا، بکثرت درود شریف پڑھا جائے۔

حضور نبی کریم ﷺ کا معمول یہ تھا کہ سردی زیادہ ہوتی تو نماز جمعہ اول وقت ادا کرتے

اور موسم زیادہ گرم ہو جاتا تو ٹھنڈے وقت گرمی کی شدت کم ہو جانے پر پڑھتے تھے۔

(صحیح بخاری۔ بروایت حضرت انسؓ)

خطبہ جمعہ کے احکام و آداب:

☆ مؤذن خطبہ کی اذان، امام کے سامنے کھڑا ہو کر دے۔

☆ امام نمازیوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دے اور دوسرے خطبہ سے قبل تھوری دیر کے لئے منبر پر بیٹھ جائے۔

☆ خطبہ عربی زبان میں دیا جائے، کسی دوسری زبان میں وہ ثواب اور درجہ نہیں۔

خطبہ کے درمیان ان امور سے پرہیز لازم ہے:

۱۔ باتیں کرنا، یا کسی بات کا جواب دینا،

۲۔ کوئی نماز، سنت یا نفل پڑھنا،

۳۔ کھانا، پینا،

۴۔ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔

۵۔ قرآن مجید پڑھنا۔

مختصر یہ کہ لازم ہے کہ خطبہ مکمل و مجبوعی، کامل یکسوئی اور پوری توجہ سے سنا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو خطبہ کے وقار اور احترام کے منافی ہو۔

نماز عید الفطر

قوموں کے تہوار:

”رسول اللہ ﷺ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ دو تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ نے ان سے پوچھا، تم یہ دو دن جو مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟

”انہوں نے عرض کیا ہم (اسلام سے قبل) دور جاہلیت میں یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے ان دو تہواروں کے بدلے تمہارے لئے ان

سے بہتر دو دن مقرر کر دیئے ہیں۔ یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔

(سنن ابی داؤد)

عید الفطر کے دن مسنون کام:

عید کے دن سنت یا مستحب امور یہ ہیں:

- ۱۔ غسل اور مسواک خاص طور سے کرنا،
- ۲۔ اچھا صاف ستر لباس جسب حیثیت جو میسر ہو پہننا،
- ۳۔ خوشبو لگانا،
- ۴۔ نماز کو جانے سے قبل کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھالینا،
- ۵۔ صدقہ فطر ادا کر کے جانا، جو ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے،
- ۶۔ شہر سے باہر کھلے میدان میں نماز ادا کرنے کے لئے ہمت ہو تو پیدل جانا،
- ۷۔ جاتے ہوئے بگیریں بلند آواز کے بجائے آہستہ آہستہ پڑھتے جانا،
- ۸۔ واپسی کے لئے دوسرا راستہ اختیار کرنا۔

نماز عید کا وقت اور عید گاہ:

عید کی نماز طلوع آفتاب کے بعد تا خیر کی بجائے اول وقت ادا کرنا مسنون ہے۔ اس

بارہ میں حضور ﷺ کے صحابی حضرت جندب کی یہ روایت ملاحظہ ہو:

☆ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالشَّفْسُ

عَلَى قَيْدِرٍ مَخِينٍ۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ایسے وقت عید الفطر کی نماز پڑھاتے تھے جب

کہ سورج بقدر دو نیزے بلند ہوتا تھا.....

(کتاب الاضاحی۔ احمد بن حسن البیہق)

نماز عید میں قرأت:

عیدین کی نمازوں میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم جن سورتوں کی قرأت فرمائی۔ اس کا جاننا خالی از قاعدہ نہ ہوگا۔ اس بارہ میں ہم دو احادیث کا ترجمہ نقل کرتے ہیں:

☆ حضرت عمر فاروق نے ابو اقدیس سے پوچھا (رضی اللہ عنہما) کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر میں کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: **ق۔ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (سورة نمبر ۵۰) اور اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (سورة نمبر ۲۱)۔**

(صحیح مسلم)

☆ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلیٰ (سورة نمبر ۸۷) اور هل اتاك حديث الغاشية (سورة نمبر ۸۸) پڑھتے تھے۔ عید اور جمعہ ایک ہی دن واقع ہوتا تو بھی دونوں نمازوں میں یہی سورتیں پڑھتے۔“

(صحیح مسلم)

عید گاہ کا راستہ:

☆ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ۔“

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن (آنے اور جانے کے لئے) راستہ بدل لیتے کرتے تھے۔“

(صحیح بخاری)

علماء نے اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں۔ مثلاً مختلف راستوں سے مختلف محلوں اور بستیوں سے گزر رہا اور ہر طرف اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی یک جہتی کا مظاہرہ ہو۔ دین کی

شان کا اظہار ہو۔ گلی گلی اور کوچہ کوچہ میں مسلمانوں کی تسبیح گونجے، جو نماز عید کو جاتے ہوئے ہر مسلمان کی زبان پر ہوتی ہے۔

☆ **اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ واللہ اکبر اللہ اکبر۔
وَلِلّٰهِ الْحَمْد۔**

”اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔“

نماز عید الفطر کو جاتے ہوئے تکبیریں بلند آواز کی بجائے آہستہ آہستہ پڑھتے جانا مسنون ہے۔

نماز عید سے قبل کھانا:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

☆ **كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ.....**

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ﷺ عید الفطر کی نماز کے لئے کچھ کھا کے تشریف لے جاتے تھے.....“

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی مروی ہے کہ اس دن نماز کو تشریف لے جانے سے قبل آپ چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔
نماز عید کی ترکیب:

دونوں عیدوں کی نماز دو رکعت واجب ہے

ان نمازوں کے لئے اذان اور تکبیر نہیں ہوتی۔

نیت:

نیت اس طرح کریں "میں عید کی نماز واجب مع زائد چھ تکبیروں کے اللہ کے لئے اس امام کے پیچھے قبلہ رو ہو کر پڑھتا ہوں"۔ پھر تکبیر تحریر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اور ہاتھ (سبحانک اللہم) پڑھیں۔

امام کے اللہ اکبر کہنے پر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں..... دوسری بار بھی امام کے اللہ اکبر کہنے پر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں..... پھر تیسری مرتبہ امام کے اللہ اکبر کہنے پر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں۔

اس کے بعد امام تَعَاوُذ، تَسْمِیَہ، فاتحہ اور کوئی سورۃ پڑھے اور عام معمول کے مطابق رکوع، سجود کریں۔

دوسری رکعت:

دوسری رکعت میں امام پہلے فاتحہ اور سورۃ پڑھے۔

قرأت کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں..... پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں..... تیسری بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر (اللہ اکبر) کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔

چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں اور حسب قاعدہ دو رکعت نماز پوری کر کے سلام پھیر دیں۔

نماز کے بعد امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام مقتدی توجہ اور خاموشی سے بیٹھ کر سنیں۔ عید میں بھی دو خطبے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے۔

بعد میں شریک ہونے والے:

۱۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کی پہلی رکعت میں،

تکبیروں کے بعد شریک ہوا۔ تو نیت کے بعد ہاتھ اٹھا کر تکبیریں کہہ لے۔

رکوع میں شریک ہوا اور گمان ہے کہ تکبیروں کے بعد رکوع مل جائے گا، تو نیت باندھ کر تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے۔

رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں شریک ہو جائے اور تسبیح کے بجائے تکبیریں کہہ لے۔

۲۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں دوسری رکعت میں شریک ہوا، تو سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلے قرأت کر لے اس کے بعد عید کی دوسری رکعت کی طرح تین زائد تکبیریں کہہ کر رکوع میں جائے۔

۳۔ اگر دوسری رکعت میں رکوع کے بعد شریک ہوا ہے، تو زائد تکبیریں نماز عید کی مانند ادا کرے۔

صدقہ فطر (فطرانہ):

برصاحب حیثیت مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اسے صاحب نصاب ہوئے ایک سال گزر گیا ہو۔ بلکہ اسی روز اس قدر صاحب مال ہوا ہو تو فطرانہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔

صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں اور بیوی کی طرف سے، گھر کے ملازمین کی طرف سے یعنی جن کا نان نفقہ اپنے ذمہ ہے، ان سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔

صدقہ فطر ہر فرد کی طرف سے نصف صاع گندم، اس کا آٹا یا اس کی قیمت مقرر ہے۔ نصف صاع سے مراد ۱۳۶۱ تو لے یعنی ۱۵۹۲ گرام ہے جو پونے دو سیر بلکہ پونے دو کلو گرام کے قریب ہوتے ہیں۔

بہتر ہے کہ نماز عید کو جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، بلکہ رمضان المبارک

میں کہی وقت بھی ادا کیا جاسکتا ہے..... اس طرح نادار، بیوگان اور غریب مسلمان بھائی بھی عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی سرفرازیوں اور خوشیوں میں اپنے کمزور افرادِ ملت کو نہ بھولیں، بلکہ شریک رکھیں اور جہاں تک ہو سکے انہیں محرومی کے احساس سے آزاد رکھیں۔

نماز عید الاضحیٰ

”نماز عید الفطر“ کے زیر عنوان گزشتہ صفحات میں آپ بہت کچھ مطالعہ کر چکے ہیں۔ دونوں عیدوں کی نمازوں کا طریقہ اور اکثر مسائل ایک جیسے ہی ہیں۔ لہذا تمام باتوں کا دہرانا مناسب نہ ہوگا۔

عید الاضحیٰ:

یہ عید قربانی کی عید بھی کہلاتی ہے۔ یہ عید اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینہ ذوالحجہ کی ۱۰ تاریخ کو آتی ہے۔

یہ وہ مبارک دن ہے، جس میں اُمتِ مسلمہ کے مورثِ اعلیٰ نبیوں کے دادا سید ابراہیم خلیل اللہ نے اشارۃً الہی پا کر اپنے لختِ جگر سیدنا اسمعیل ذبح اللہ کے گلے پر پھری رکھ دی تھی۔ (باپ بیٹا دونوں پر اللہ کا سلام ہو) اس طرح دونوں نے اللہ سبحانہ سے اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم و رضا کا ثبوت عملاً پیش کر دیا تھا۔

وقت نماز عید الاضحیٰ:

عیدین کی نماز کے وقت کے بارہ میں حضرت جناب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہم نماز عید الفطر کے بیان میں نقل کر چکے ہیں۔ مکمل حدیث یوں ہے:

☆ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا یوم الفطر

وَالشُّمْسُ عَلَى قَيْدٍ زَمْحَنِينِ وَالْأَضْحَى عَلَى قَيْدٍ رَفِجٍ۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو عید الفطر کی نماز ایسے وقت پڑھاتے تھے جب

کہ سورج بقدر دو نیزہ کے بلند ہوتا تھا۔“

(کتاب الاضاحی، احمد بن حسن البیہاق)

گویا عید الاضحیٰ کی نماز طلوع آفتاب کے بعد اول وقت ادا کرنا سنت نبوی ہے۔

کھانا نماز کے بعد:

عید قربان کے دن سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد کچھ کھایا جائے۔ اس بارہ میں حضرت

بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ملاحظہ ہو۔

فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ کا معمول یہ تھا کہ عید الفطر کی نماز کے لئے کچھ کھا کے

تشریف لے جاتے تھے۔ وَلَا يُطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ۔ اور عید الاضحیٰ

کے دن نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔“

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

تکبیرات تشریح:

”یوم عرفہ“ ۹ ذوالحجہ کی نماز فجر سے ۱۳ ذوالحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند

آواز سے تکبیر تشریح کہنا واجب ہے۔ مستورات آہستہ سے تکبیر کے الفاظ دہرائیں۔ اگر امام

بھول جائے تو مقتدی تکبیر شروع کر دیں۔

تکبیر تشریح کے الفاظ یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ

واللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْد۔

”اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ

سب سے بڑا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔“

یہ امر خاص طور پر یاد رہے کہ عید قربان کے دن نماز کو جاتے ہوئے تکبیر تشریح بلند آواز

سے کہتے جانا مسنون ہے۔

قربانی نماز کے بعد:

قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے۔ اس سلسلہ میں دو احادیث ملاحظہ ہوں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”رسول کریم ﷺ نے عید کے دن ہمیں خطبہ دیا۔ اس میں فرمایا آج کے دن ہمارے لئے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز عید ادا کریں۔ پھر یہاں سے لوٹ کر قربانی دیں۔ پس جس نے اس طرح عمل کیا اس نے ہماری سنت (طریقہ) کو پالیا اور جس نے نماز سے قبل قربانی کر ڈالی اس کی قربانی نہ ہوئی۔ یہ بالکل ایسے ہوا جیسے اس نے اپنے گھر والوں کے لئے بکری ذبح کی ہے۔“ (صحیح بخاری و مسلم)

حضرت جناب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”ایک دفعہ میں عید قربان کے دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ جیسے ہی آپ نماز عید سے فارغ ہوئے، آپ کی نگاہ قربانیوں کے گوشت پر پڑی۔ یہ قربانیاں نماز سے قبل ہی ذبح کی جا چکی تھیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى۔ جن لوگوں نے نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کریں۔“ (صحیح بخاری و مسلم)

حضور ﷺ کی قربانی:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے قربانی کے دن سینگوں والے، سیاہی سفیدی مائل، دو خستی مینڈھوں کی قربانی کی۔ جب (ذبح کرنے کے لئے) اُن کا رخ قبلہ کی طرف کر لیا تو یہ دعا پڑھی:

☆ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلٰی
 مِلَّةِ اِبْرٰهَیْمَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ اِنَّ صَلٰوَتِیْ

وَنُسْكِي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
 وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَن
 مُحَمَّدٍ وَ أُمَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

”میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، حضرت
 ابراہیم کے طریقے پر، ہر طرف سے یکسو ہو کر۔“

”میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور
 میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اس کا حکم ملا ہے،
 میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔“

”اے اللہ! یہ قربانی تیری ہی طرف سے، اور تیری ہی توفیق سے، تیرے بندے
 محمد ﷺ کی طرف سے اور اس کی امت کی جانب سے ہے۔“

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہہ کر آپ ﷺ نے مینڈھے پر پتھری چلائی اور اس کو
 ذبح کیا۔

(سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، دارمی، مسند احمد)

حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں:

☆ أَقِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ
 يُضْحِي۔

”رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں دس سال قیام فرمایا اور برابر ہر سال قربانی کرتے
 تھے۔“

(جامع ترمذی)

اس حدیث مبارکہ سے اُس غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ قربانی صرف حجاج کرام

واجب ہے اور صرف مکہ مکرمہ یا وادی منیٰ میں واجب ہے۔

مزید حضرت حنظل کی یہ حدیث بھی ملاحظہ کریں وہ بیان فرماتے ہیں:

”میں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دو مینڈھوں کی قربانی کرتے دیکھا تو میں نے
 سے عرض کیا قافلہ ہذا یہ کیا ہے؟“

”انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اَوْصَانِي أَنْ أُضْحِيَ عَنْهُ
 أُضْحِي عَنْهُ مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ ﷺ کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں
 ایک قربانی میں آپ ﷺ کی جانب سے کرتا ہوں۔“

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

قربانی کی اہمیت:

حضرت زید بن ارقم مشہور صحابی رسول ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
 بعض اصحاب نے عرض کیا، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا:

☆ ”سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ“

”تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔“

انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ان قربانیوں میں ہمارے لئے کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

☆ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ۔

”ہر ہر بال کے عوض ایک ننگی ہے۔“

انہوں نے عرض کیا۔ کیا اون کا بھی یہی حساب ہے؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”اُون والے جانور
 کی قربانی کے ہر بال کے عوض بھی ایک ننگی ہے۔“

(مسند احمد، سنن ابن ماجہ)

نماز تراویح

• نماز تراویح مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے

تراویح کا وقت:

نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد تفرج تک ہے۔ تراویح کی نماز وتر سے پہلے

بھی اور بعد میں بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کی تراویح کی کچھ رکعات رہ گئی ہوں اور امام وتر پڑھنے لگے تو وتر میں شریک ہو جائے۔ وتر کے بعد تراویح کی اپنی بقیہ رکعات پوری کرنے۔

تلاوت قرآن کے مسائل:

☆ نئی سورۃ شروع ہونے پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ آہستہ سے پڑھ لینا چاہئے۔ لیکن کسی ایک سورۃ کے شروع میں بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ کیونکہ بسم اللہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، گو کسی سورۃ کا جز نہیں۔

☆ تراویح میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے کوئی حصہ رہ جائے اور بعد میں یاد آئے، تو مستحب یہ ہے کہ چھوٹی ہوئی آیت یا سورۃ کو پڑھیں اور جس قدر حصہ اس سے آگے پڑھ لیا تھا اسے دوبارہ پڑھ لیں، تاکہ تسلسل قائم رہے۔

☆ نماز تراویح میں ایک بار اول سے آخر تک پورا قرآن مجید پڑھنا یا سننا سنت ہے..... دو مرتبہ ختم کرنا افضل ہے..... تین مرتبہ پڑھنے کو اور بھی فضیلت حاصل ہے، بشرطیکہ مقتدیوں کو دشواری نہ ہو، اور اس قدر پڑھنا بوجہ نہ ہو۔

☆ تراویح میں حفاظ کو قرآن مجید ایسی رفتار سے پڑھنا چاہیے کہ ہر لفظ سمجھ میں آسکے اور غلطی پر سامع آسانی سے ترمیم دے سکے۔

تراویح کی رکعات:

☆ تراویح کی بیس رکعت مسنون ہیں، دو دو رکعت کر کے پڑھ لی جائیں۔ ہر ترویج یعنی چار رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا مستحب ہے، اس دوران خاموشی سے بیٹھے رہیں یا آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھتے رہیں بہتر ہے کہ تراویح کی تسبیح پڑھیں۔

☆ اگر دو رکعت کی نیت کی اور دوسری رکعت کے بعد قعدہ کرنا بھول گیا تو تیسری میں یاد

آنے پر بیٹھ جائیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔

اگر تیسری رکعت میں سجدہ کے بعد یاد آیا تو چار رکعت پڑھ لیں، آکر میں سجدہ سہو کر لیں۔ دو تراویح ہو جائیں گی اور دو نفل شمار ہوں گی۔

☆ اگر دو رکعت کی نیت کی اور قعدہ میں بیٹھ بھی گئے لیکن اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو گئے تو چار رکعت پوری کر لیں۔ چاروں تراویح شمار ہوں گی۔

(عالمگیری)

تسبیح تراویح:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

پاک ذات ہے اللہ کی، جو ملک والا، پاک ہے،

سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ

پاک ذات ہے اللہ کی، جو ملک اور بادشاہت والا ہے،

سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ

وَالْجَبْرُوتِ

پاک ذات ہے اللہ کی جو عزت والا، عظمت والا، ہیبت والا، بڑائی والا، اور بڑے

دبدر بہ والا ہے۔

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ

پاک ذات ہے اللہ کی جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، نہ اُسے ادگھ ہے، نہ موت

ہے،

سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

وہ پاک ہے، پاکیزگی والا ہے، وہ ہمارا، فرشتوں کا اور روح کا پروردگار ہے۔

اللَّهُمَّ اجْزِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ يَا مُجِيبُ

اے اللہ! ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات

دینے والے!

(عالمگیری)

دنیا سے بے رغبتی کا علاج

موت کی یاد:

دنیا میں واقع ہونے والی کوئی بات اگر یقینی اور آئیں ہے تو وہ صرف موت ہے۔ لیکن غافل انسانوں کو اگر کسی امر سے غفلت ہے تو موت سے ہے۔ اُسے سب کچھ یاد رہتا ہے، مرنا یاد نہیں رہتا۔ اس بارہ میں حضرت رسالت پناہ ﷺ کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی

سنئے:

☆ أَكثِرُوا ذِكْرَهَا ذِمَّ اللذات المموت

”لوگو! موت کی یاد کرو اور یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔“

(جامع ترمذی، سنن نسائی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ میرا شانہ پکڑا اور مجھ سے فرمایا: ”دنیا میں اس طرح رہ جیسے تو ایک پردیسی ہے یا راستہ پر چلنا مسافر ہے۔“ (اس ارشاد کا یہ اثر تھا کہ) ابن عمرؓ نصیب فرمایا کرتے تھے:

”جب شام آئے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح آئے تو شام کا انتظار نہ کر۔ سمجھو کی حالت میں بیماری کے لئے اور زندگی میں موت کے لئے کچھ کمائی کر لے۔“

(صحیح بخاری)

موت کی تمنا:

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

☆ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ
”تم میں سے کوئی خود موت کی تمنا نہ کرے۔“

اس کی حکمت سرور عالم ﷺ نے یہ بتلائی۔ ”اگر نیکو کار ہے تو امید ہے جب تک زندہ رہے گا اس کے ذخیرہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا“..... اس کے برعکس ”اس کے عمل اگر خراب ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی میں وہ توبہ وغیرہ کے ذریعہ اللہ پاک کو راضی کر لے۔“

(صحیح بخاری)

بعض اوقات انسان بیماری سے لاچار ہو جاتا ہے۔ ضعیفی اسے بالکل بے بس کر دیتی

ہے اور زندگی ایک وہال بن جاتی ہے۔ ایسے حال میں ہادی سبل ختم المرسل ﷺ کی ہدایت یہ ہے: ”تم میں سے کوئی کسی ذکھ اور تکلیف کی وجہ سے بھی موت کی تمنا نہ کرے اگر بالکل ہی

لاچار ہو تو یوں دعا کرنے:

☆ اللَّهُمَّ أَخْبِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَوَةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي۔

”اے اللہ! میرے لئے جب تک زندہ رہنا بہتر ہو، اُس وقت تک مجھے زندہ کر کہ اور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھے دنیا سے اٹھالے۔“

(صحیح بخاری و مسلم، بروایت حضرت انس)

بخاری رحمت اور گناہوں کا کفارہ

☆ ”مسلمانوں کو جو بھی ذکھ، جو بھی بیماری، جو بھی اذیت یا جو بھی رنج و غم پہنچتا ہے، یہاں تک اگر اس کو کاشا بھی لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اس کے گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔“

(صحیح بخاری و مسلم، بروایت حضرت ابی سعید)

موت کے آثار ظاہر ہونے پر:

موت برحق ہے اور سب کو آتی ہے۔ پاب ہیں وہ جن کا خاتمہ اسلام پر ہو اور مرتے دم تک نہ صیب ہو۔ کس قدر عظیم بشارت ہے!

☆ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

”جس شخص کا (مرتے دم) آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔“

(سنن ابی داؤد)

اس بارہ میں ہادی برحق ﷺ کی ہدایات یہ ہیں۔

☆ لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

”اپنے مرنے والوں کو لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ کی تلقین کیا کرو۔“

(صحیح مسلم)

”تلقین“ یہ ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر لہو حقیق اتنی بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں کہ اس کے کانوں تک کلمہ کی صدائے دلنواز پہنچتی رہے۔ تاکہ اُس کا ذہن شہادتِ توحید و رسالت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ زبان ساتھ دے سکے تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت کلمہ کو پڑھ کر ایمان تازہ کر لے۔

بزاور راست کلمہ پڑھنے کو نہ کہا جائے۔ معلوم نہیں جان کنی کی تکلیف میں بیچارے کے منہ سے کیا نکل جائے۔

۲۔ نیز ارشاد فرمایا:

☆ اِقْوَةٌ وَا سُورَةٌ یَسِّنُ عَلٰی مَوْتَاکُمْ۔

”تم اپنے مرنے والے پر سورۃ یسن پڑھا کرو۔“

(مسند احمد سنن ابی داؤد۔ بروایت معقل بن یسار)

سورۃ یسن بڑی برکت والی ہے۔ اس میں دین و ایمان سے متعلق بڑے اہم مضامین

ہیں۔ موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس میں اس کا ذکر بڑے موثر انداز میں تفصیل سے

موجود ہے۔..... نزع کے عالم میں مرنے والے کے قریب بیٹھ کر اس کی تلاوت کرنا حکمت و

برکت سے خالی نہیں۔

مرنے کے بعد کیا کیا جائے؟

اس بارہ میں احادیث میں مذکور ہم دو صحابہؓ کے سطر آخرت کے واقعات نقل کرنے کی

سعادت حاصل کرتے ہیں۔

اُمّ المؤمنین حضرت اُم سلمہؓ نے پہلے شوہر کے

سِرِّ اٰخِرَتِ كَا تَذَكْرَهٗ اِنَّ الْفَاظَ فِيْهَا كَرِيْمٌ هِيَ:

”رسول اللہ ﷺ ابو سلمہ کی وفات کے وقت تشریف لائے۔ اُن کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، آپ نے ان کو بند کیا اور فرمایا جب رُوح جسم سے نکل جاتی ہے تو بیٹائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔“

ان کے گھروالے بلند آواز سے رونے لگے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دُعا کرو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر امین کہتے ہیں۔“

پھر آپ ﷺ نے خود اس طرح دعا فرمائی:

☆ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ سَلْمَةً وَاَرْفَعْ دَرَجَتِيْ فِي الْمَهْدِيْنَ.....

”اے اللہ! ابو سلمہ کی مغفرت فرما۔ اس کے درجے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند

فرما۔ اس کے بجائے اس کے پس ماندگان کی تو ہی سرپرستی اور نگرانی فرما۔ اے رب

العالمین! ہم کو اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔“

(صحیح مسلم)

اس حدیث سے مندرجہ ذیل نتائج مرتب ہوتے ہیں:

- ۱۔ مرنے والے کی آنکھیں بند کر دینی چاہئیں۔
- ۲۔ رنج و غم میں اپنے لئے بددعا یہ کلمات کے بجائے خیر کی دعا مانگنی چاہئے۔
- ۳۔ مرحوم کے لئے دعائے مغفرت اور قبر کی مُشادگی کے لئے دُعا کی جائے۔
- ۴۔ پسماندگی کے حق میں بھلائی کی دعا کی جائے۔

غسل و کفن میت کا بیان

اللہ کا کوئی بندہ جب اس جہان سے رخصت ہو کر عالم بقا کے لئے رخصت سفر باندھتا ہے تو اسلامی شریعت نے اس کو نہایت عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کرنے کا ایک خاص طریقہ

مقرر فرمایا ہے۔ جو نہایت پاکیزہ، ہمدردانہ اور خدا پرستانہ ہے۔

پہلے غسل دیا جائے۔ ٹھیک اس طرح جیسے کوئی زندہ آدمی پاکی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے نہاتا ہے۔ غسل کے پانی میں اور غسل کے لئے وہ چیزیں شامل کی جائیں جو میل کچیل کو صاف کرنے کے لئے ہیں۔ مثلاً بیری کے پتے اور صابن وغیرہ۔ کافور، نعہان، صندل اور عطر وغیرہ بھی استعمال کیا جائے۔

صاف سترے سفید کپڑوں میں کفٹایا جائے۔

اس کے بعد پورے احترام کے ساتھ جنازہ کو اٹھایا جائے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے جو از اول تا آخر ثنائے الہی، درود نبوی اور مرحوم کے لئے مغفرت و رحمت کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔

بعد ازاں بظاہر قبر کے حوالے اور درحقیقت رحمت الہی کے سپرد کر دیا جائے۔

.....

غسل کے بارہ میں حضرت اُمّ علیہ انصاریہؓ کی ایک روایت یوں ہے:

”ہم رسول اللہ ﷺ کی ایک صاحبزادی (حضرت زینبؓ) کو غسل دے رہے تھے کہ آپ ﷺ گھر میں تشریف لائے اور فرمایا تم اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ جوش دیئے پانی کے ساتھ تین مرتبہ، یا پانچ دفعہ اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو۔ اور آخری بار کافور بھی شامل کر لینا۔“ حضور اکرمؐ ان کے کفن میں شامل کرنے کے لئے اپنا تہہ بند بھی عطا فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم ان کو طاق دفعہ غسل دو۔ یعنی تین دفعہ یا پانچ یا سات دفعہ اور داہنے اعضاء سے وضو کے مقامات سے شروع کرنا۔“

(صحیح بخاری، مسلم)

کفن:

کفن کے بارے میں ارشاداتِ نبویؐ کچھ اس طرح ہیں:

☆ اِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنِ كَفَنَهُ۔

”جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔“

(صحیح مسلم)

☆ فرمایا ”تم سفید کپڑے پہنا کرو۔ یہ تمہارے لئے اچھے کپڑے ہیں اور انہی میں اپنے

مرنے والوں کو کفنایا کرو۔“

(سنن ابی داؤد۔ جامع ترمذی۔ بروایت ابن عباسؓ)

☆ فرمایا ”زیادہ بیش قیمت کفن استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔“

(سنن ابی داؤد۔ بروایت حضرت علیؓ)

مردوں کے لئے تین اور عورتوں کے لئے پانچ اچھے سفید کپڑوں میں دفنانے کا حکم اس

صورت میں ہے جب کہ گھروالے اس کا انتظام کر سکتے ہوں اور اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔

ورنہ بھوری کی حالت میں صرف ایک اور ہانے کپڑے میں بھی کفن دیا جاسکتا ہے۔

غزوہٴ احد حضرت رسول پاک ﷺ کے حقیقی چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہؓ کو اور

حضرت مصعب بن عمیرؓ کو صرف ایک پرانی اور اس قدر چھوٹی چادر میں کفنایا گیا تھا کہ سر ڈھانکتے

تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے اس چادر سے سر ڈھانک دیا گیا اور

پاؤں کو اذخو گھاس سے چھپا دیا گیا۔

میت کو نہلانے کے بعد غسل:

حضرت ابو ہریرہؓ مشہور صحابی سے حضرت رسول کریم ﷺ کی یہ حدیث مروی ہے

☆ **مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ**

”جو شخص میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے۔“

(ابن ماجہ)

بعض دوسری کتب حدیث مثلاً سنن احمد، ترمذی اور ابوداؤد میں یہ بھی ہے۔

☆ **وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ**

”جو جنازہ اٹھائے وہ وضو کر لے۔“

ان دونوں ارشادات سے منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل کے وقت نہلانے والے پھینٹیں پڑنا عین ممکن ہے۔ لہذا مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے۔ میت کو کاندھا دینے والے نماز جنازہ میں شرکت کے لئے وضو کر لیں تاکہ نماز کی تیاری ہو جائے۔

جنازہ کے ساتھ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازہ کے ساتھ رہے جب تک اس پر نماز نہ پڑھی جائے اور اس کو دفن کیا جائے تو وہ شخص ثواب کے دو قیراط لے کر واپس ہوگا۔ ہر قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے وہ ثواب کا ایک قیراط لے کر لوٹے گا۔“

(صحیح بخاری۔ مسلم)

جنازہ و مکمل نماز جنازہ کا بیان

صف بندی:

جنازہ آگے رکھ کر امام صف کے درمیان یعنی میت کے سینہ کے مقابل کھڑا ہو جائے، مقتدی پیچھے صف ہاتھ کر کھڑے ہوں۔ صفیں طاق ہوں۔ مثلاً ایک تین یا پانچ یا زیادہ۔ نیت اور ترکیب نماز:

نماز جنازہ کی نیت اس طرح کی جائے۔

☆ ”میں نماز جنازہ کی نیت کرتا ہوں، نماز اللہ کے لئے ہے۔

☆ درود نبی کریم ﷺ کے لئے۔ دعا اس میت کے لئے منہ خانہ کعبہ کی طرف پیچھے اس امام کے“

☆ نیت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک الٹا کبڑے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ) آخر تک پڑھیں۔

☆ دوسری تکبیر کے بعد اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے درود شریف پڑھیں۔

☆ تیسری تکبیر کے بعد اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے میت کے لئے دعا پڑھیں۔

☆ چوتھی تکبیر کے بعد امام کیساتھ دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ نماز جنازہ مکمل ہوگئی۔

مکمل نماز جنازہ..... ثنا:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

اے اللہ تو پاک ہے۔ اپنی تعریف کے ساتھ اور تیرا نام برکت والا ہے

وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

اور تیری شان بلند ہے۔ تیری تعریف بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں

درود شریف:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر

كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ

جیسا کہ تو نے درود و سلام بھیجا اور برکت، رحمت اور مہربانی فرمائی حضرت ابراہیم

اور ان کی آل پر

اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

یقیناً تو تعریف کیا گیا اور بزرگ ہے

اَللّٰهُمَّ بَرِّكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ! برکت بھیج حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر

كَمَا بَرَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيمَ

جیسا کہ تو نے برکت بھیجی حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر

اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

یقیناً تو تعریف کیا گیا اور بزرگ ہے

دُعَا بَالِغ (مرد و عورت کے لئے):

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا

اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، ہمارے ہر حاضر

وَعَاةِ بِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا

اور ہمارے ہر غائب کو، ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے کو، ہمارے ہر مرد

وَأَنْشَأَ اللّٰهُمَّ مِنْ أَحْيَيْنَا مِنَّا

اور ہر عورت کو۔ اے اللہ! ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے

فَأَخِيهِ عَلٰى الْاِسْلَامِ ط وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا

تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے

فَتَوَفَّهُ عَلٰى الْاِيْمَانِ

تو اس کو ایمان پر مہوت دے

دعا مانا بلغ بچہ کے لئے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فَرْطًا

اے اللہ! اس (لڑکے) کو ہمارے لئے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے

وَاجْعَلْ لَنَا آخِرًا وَذُخْرًا

اور اس کو ہمارے لئے اجر و ثواب اور ذخیرہ بنا دے

وَاجْعَلْ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا

اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے اور وہ جس کی سفارش منظور کی جائے

دعا مانا بلغ بچی کے لئے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطًا

اے اللہ! اس (لڑکی) کو ہمارے لئے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے

وَاجْعَلْهَا لَنَا آخِرًا وَذُخْرًا

اور اس کو ہمارے لئے اجر و ثواب اور ذخیرہ بنا دے

وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً

اور اسے ہمارے لئے سفارش کرنے والی بنا دے اور وہ جس کی شفاعت منظور کی جائے۔

چند ضروری مسائل

۱۔ نماز جنازہ کے فرض:

☆ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔

☆ چار دفعہ اللہ اکبر کہنا۔

☆ سلام پھیرنا واجب ہے۔

سختیں:

☆ امام کا میت کے سینہ کے مقابل کھڑا ہونا۔

☆ ثنا پڑھنا۔

☆ درود شریف پڑھنا

☆ دعائے جنازہ پڑھنا

نَسَب:

اگر نمازی زیادہ ہوں تو تین، پانچ یا سات طاق میں بناؤں۔

شرائط:

نماز جنازہ کی شرائط وہی ہیں جو عام نمازوں کی ہیں۔ مثلاً قبلہ رو ہونا اور نیت کرنا وغیرہ۔ لیکن نماز جنازہ میں رکوع و سجود نہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ جس شخص کو فوتگی کا علم نہ ہو وہ معذور ہے۔

۲۔ صحیح ہونے کی شرطیں:

میت مسلمان ہو، اس کا بدن اور کفن پاک ہو، سر ڈھکا ہوا ہو، میت کا جنازہ سامنے زمین پر رکھا ہو۔

۳۔ نماز جنازہ غائبانہ:

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مسلک میں جائز نہیں۔ حضرت رسول کریم ﷺ نے نجاشی شاہ حبشہ کا جنازہ غائبانہ پڑھا تھا۔ اسے حضور اکرمؐ کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے۔ اگر نماز جنازہ غائبانہ سنت ہوتا تو صحابہ کرام اس سنت کو یوں چھوڑتے؟ خصوصاً خلفاء راشدین۔ کیا ان کے دور میں دور دراز علاقوں، ملکوں میں مسلمان جہاد میں شہید نہیں ہوئے؟

۴۔ ان کی نماز جنازہ نہیں:

کافر، مرتد، ماں باپ کا قاتل، جس کے عقائد حد کفر تک پہنچ گئے ہوں یا وہ بچہ جو مردہ

قیام الیل کے بارہ میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

☆ إِنَّ نَافِثَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً.....

”کچھ شگ نہیں رات کو کھڑا ہونا نفس کو بہت دبانے والا عمل ہے اور اس وقت جو زبان سے نکلتا ہے وہ خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں اور بھی مشغل ہوتے ہیں۔“

(الموتل ۷۳:۷۶)

اللہ رب العزت نے ایک موقع پر اپنے رسول ﷺ کو ان الفاظ میں تہجد کا حکم دیا اور ”مقام محمود“ کی تہجد کی۔

☆ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ط عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔

”اور رات کے کچھ حصہ میں بیدار ہوا کریں (یہ شب خیزی) آپ کے لئے زائد اور مخصوص ہے۔ قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب ”مقام محمود“ پر سرفراز فرمائے گا۔“ (بنی اسرائیل ۷۹:۸۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث کس قدر عبرت افزا ہے! بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ پاک نے رحم کیا اس بندہ پر جو رات کو اٹھا اور اس نے تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی۔ اگر وہ (نیند کی وجہ سے) نہ اٹھی تو اس کے منہ پر ہلکا سا پانی کا چھینٹا دے کر بیدار کیا۔“

”اسی طرح اللہ کی رحمت ہوگی اس بی بی پر جو رات کو اٹھی اور اس نے نماز تہجد ادا کی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا اور اس نے نماز پڑھی۔ اگر وہ نہ اٹھا تو اس نے اس کے منہ پر

ہلکا سا پانی کا چھینٹا دے کر اٹھایا۔“

(سنن ابی داؤد، نسائی)

نماز تہجد کی قرأت:

”نماز تہجد کی قرأت میں نبی کریم ﷺ کبھی آواز بلند کرتے اور کبھی آہستہ پست آواز

سے کلام اللہ پڑھتے تھے۔“

(سنن ابی داؤد)

تہجد کی رکعات:

حضرت رحمہ اللہ، شافع اُمّ مکتبہ تہجد کی رکعات کبھی کم کبھی زیادہ پڑھتے تھے۔

چنانچہ حضور کی رفیقہ حیات، اُمت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کر وہ صحیح بخاری اور صحیح

مسلم کی دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک میں آپؐ نے فرمایا کہ وتر کی تین اور فجر کی سنتوں کی

دو رکعتوں کے علاوہ حضورؐ آٹھ رکعات پڑھتے تھے..... دوسری حدیث نے فرمایا کہ کبھی دو

کبھی چار اور کبھی چھ رکعات بھی پڑھتے تھے۔ ان احادیث کو اس طرح جمع کیا جائے کہ تہجد کی کم از

کم رکعات دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ ہیں۔

اشراق اور چاشت

اشراق:

وہ نوافل ہیں جو طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد فوراً پڑھی جاتی ہیں۔

چاشت:

وہ نوافل ہیں جو دن اچھی طرح پڑھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔

ارشادات نبوی:

دو مشہور صحابی حضرت ابو داؤد اور حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نقل کیا ہے کہ اس کا ارادہ ہے

☆ يَا بَنِي آدَمَ اِذْ كُنْ لِي اَزْ بَع رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِيكَ اٰخِرَةَ۔

”اے فرزند آدم! تو دن کے ابتدائی حصہ میں میرے لئے چار رکعات پڑھا کر، میں دن کے آخری حصہ تک تجھے کفایت کروں گا۔“

(جامع ترمذی)

صلوة الاوائین

نماز مغرب کے بعد کم از کم چار، چھ یا میں رکعات ”صلوة الاوائین“ کہلاتی ہیں۔ ان نوافل کے بارہ میں ارشاد نبویؐ ہے کہ جو کوئی نماز مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اس کے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(طبرانی)

حصہ دوم

نماز احناف وغیر مقلدین کا فرق مع مسائل

غیر مقلدین حدیث پر عمل کرتے ہیں یا اس سے بغاوت؟

غیر مقلدین کے بزرگوں کی زبانی موجودہ دور کے غیر مقلدین کی نشانی

غیر مقلدین کے عمل بالحدیث کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ لوگ واقعتاً زندگی کے تمام

شعبوں میں قرآن و حدیث ہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ یا یہ صرف ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ اس کو جاننے کیلئے غیر مقلدین کے بزرگوں کی تحریرات پیش کی جاتی ہیں۔ جن سے بخوبی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ غیر مقلدین کا عمل بالحدیث فقط دعویٰ کی حد تک ہے ماسوا آئین بالجبر، رفعیون، فاتحہ خلف الامام اور ان جیسے چند متاثرہ مسائل کے دیگر مسائل سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سارا زور و شور ان ہی مسائل پر ہے۔ تمام تحقیقات کا مدار یہی مسائل ہیں۔ گویا یہ مسائل فروری مسائل نہیں بلکہ کفر و ایمان کی بنیاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین کے یہاں ہر وہ شخص اہل حدیث اور پکا محمدی مسلمان ہے جو آئین پکار کر کہے، رفعیون کرے، سینہ پر ہاتھ باندھے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے خواہ وہ کتنا ہی جاہل گندے اخلاق والا اور بد کردار کیوں نہ ہو، ہاں جو ان مسائل پر عامل نہیں خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم باعمل متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ نہ "اہل حدیث" ہے نہ "محمدی مسلمان" ہے۔ بلاخر آپ غیر مقلدین کے عمل بالحدیث کے متعلق ان کے بزرگوں کی تحریرات ملاحظہ فرمائے:-

نواب صدیق حسن خان صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"اس زمانہ میں ایک شہرت پسند اور ریاکار فرقہ نے جنم لیا ہے جو ہر قسم کی خامیوں اور نقائص کے باوجود اپنے لیے قرآن و حدیث کے عمل اور اس پر عامل ہونے کا دعویدار ہے، حالانکہ اہل علم و عمل اور اہل عرفان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

نواب صاحب فرماتے ہیں:

"بخدا یہ امر انتہائی تعجب و تحیر کا باعث ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خالص موحّد گردانتے ہیں اور اپنے ماسوی سب مسلمانوں کو مشرک بدعتی قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ خود انتہائی متعصب اور دین میں غلو کرنے والے ہیں..... مقصود یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا دیکھنا آنکھوں کی

چشمیں اور نگلوں کی گھٹن، جانوں کے کرب اور دکھ، روحوں کے بخار، سینوں کا غم اور دلوں کی بیماری کا باعث ہے مگر تم ان سے انصاف کی بات کرو تو ان کی طبیعتیں انصاف قبول نہیں کریں گی۔“

(الحج)

نواب صاحب ان لوگوں کے کردار سے کس قدر پریشان تھے، نواب صاحب نے ان سے تنگ آ کر لوگوں کے سامنے ان کا سارا پول کھول دیا اور اپنے انتہائی کرب و بے چینی کا اظہار کر دیا۔

قارئین محترم یہ تو نواب صاحب کے زمانہ میں پیدا ہونے والے غیر مقلدین کا حال تھا اس سے اندازہ کیجئے کہ موجودہ دور کے غیر مقلدین کا کیا حال ہوگا؟

(الخطبۃ فی ذکر الصحاح السنۃ ۱۵۴، ۱۵۵)

نواب وحید الزماں صاحب رقمطراز ہیں:

”غیر مقلدوں کا گروہ جو خود کو اہلحدیث کہتے ہیں انہوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی بھی پرداہ نہیں کرتے نہ سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی، قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی من مانی کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں جو تفسیر آچکی ہے اس کو بھی نہیں سنتے، بعض عوام اہلحدیث کا یہ حال ہے کہ انہوں نے صرف رفع یدین اور آئین بالجہر کو اہلحدیث ہونے کے لئے کافی سمجھا ہے، باقی اور آداب اور سنن اور اخلاق نبوی سے کچھ مطلب نہیں، غیبت جھوٹ افتراء سے پرہیز نہیں کرتے۔ ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اور حضرات صوفیہ کے حق میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں، اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں بات بات میں ہر ایک کو مشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں۔“

(لغات الحدیث ج ۳: ۹۱ کتاب ش)

نواب وحید الزماں صاحب کی امام بخاریؒ پر تنقید:

نواب وحید الزماں صاحب امام بخاری پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”امام جعفر صادق مشہور امام ہیں۔ بارہ اماموں میں سے اور بڑے ثقہ اور فقیہ اور حافظ تھے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے شیخ ہیں، اور امام بخاری کو معلوم نہیں کیا شبہ ہو گیا کہ وہ اپنی صحیح میں ان سے روایت نہیں کرتے.....“

اللہ تعالیٰ امام بخاری پر رحم کرے مروان اور عمران بن حطان اور کئی خوارج سے تو انہوں نے روایت کی اور امام جعفر صادق سے جو ابن رسول اللہ ہیں ان کی روایت میں شبہ کرتے ہیں“
(لغات الحدیث ج ۱: کتاب ج ۶: ص ۶۱)

ایک دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں:

”اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تعجب ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق سے روایت نہیں کی اور مروان وغیرہ سے روایت کی جو اعدائے اہل بیت علیہم السلام تھے“
(لغات الحدیث ج ۲: کتاب ۱۰۹، ۳۹)

نواب وحید الزماں صاحب کی بخاری شریف کے ایک راوی پر سخت تنقید:

نواب صاحب بخاری شریف کے ایک راوی مروان بن الحکم پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”حضرت عثمانؓ کو جو کچھ نقصان پہنچا وہ اسی کج بخت شریہ النفس مروان کی بدولت خدا اس سے پوچھے۔“

(لغات الحدیث ج ۲: کتاب ۲۱۳)

بخاری شریف حکیم فیض عالم کی نظر میں:

امام بخاری رحمۃ اللہ نے واقعاً فک سے متعلق جو احادیث بخاری شریف میں ذکر کی ہیں ان کی تردید کرتے ہوئے حکیم فیض عالم لکھتے ہیں:

”ان محدثین، ان شارحین حدیث، ان سیرت نویس اور ان مفسرین کی تقلیدی ذہنیت

پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جو اتنی بات کا تجزیہ یا تحقیق کرنے سے بھی عاری تھے کہ یہ واقعہ سر سے ہی غلط ہے، لیکن اس دینی تحقیقی جرأت کے فقدان نے ہزاروں ایسے پیدا کیے اور پیدا ہونے لگے۔

ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں جو کچھ درج فرمادیا وہ صحیح لاریب ہے خواہ اس سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، انبیاء کرام کی عصمت، ازواج مطہرات کی طہارت کی فضائے بسیطہ میں دھجیاں بکھرتی چلی جائیں، کیا یہ امام بخاری کی اسی طرح تھلید جائز نہیں جس طرح مقلدین ائمہ اربعہ کی تھلید کرتے ہیں۔

(صدیقہ کائنات ۱۰۶)

حکیم فیض عالم کے نزدیک امام بخاری واقعہ انک کی روایت میں مرفوع اہکم ہیں:
حکیم فیض عالم لکھتے ہیں:

”در اصل امام بخاری میرے نزدیک اس روایت کے معاملہ میں مرفوع اہکم ہیں۔ داستان گوئی چابک دستی کے سامنے امام بخاری کی احادیث کے متعلق تمام چھان بین دھری کی دھری رہ گئی۔“

(صدیقہ کائنات ۱۰۶)

غیر مقلدین ذرا سوچ کر جواب دیں کہ جب امام بخاری کی اس عظیم واقعہ کے متعلق احادیث کی چھان بین دھری کی دھری رہ گئی تو دیگر احادیث کے متعلق ان کی چھان بین کا اعتبار کیونکر ہوگا؟

بخاری شرف کے ایک مرکزی راوی پر حکیم فیض عالم کی جرح و تنقید:
حکیم فیض عالم بخاری شریف کے ایک مرکزی راوی جلیل القدر تابعی اور حدیث کے مدون اول امام ابن شہاب زہری پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ابن شہاب من افضل من ائمتنا وکان یمنیٰ کے دانستہ نہ کسی تاوانستہ ہی کسی مستقل ایجنٹ تھے اکثر

گمراہ کن، خبیث اور کذب روایتیں انہیں کی طرف منسوب ہیں۔“

(صدیقہ کائنات ۱۰۷)

مزید لکھتے ہیں:

”ابن شہاب کے متعلق یہ بھی مقول ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بھی بلا واسطہ روایت کرتا تھا جو اس کی ولادت سے پہلے مر چکے تھے، مشہور شیوخ مؤلف شیخ عباس قمی کہتا ہے کہ ابن شہاب پہلے سنی تھا۔ پھر شیعہ ہو گیا۔“

عین الغزال فی اسماء الرجال میں بھی ابن شہاب کو شیعہ ہی کہا گیا ہے۔“

(صدیقہ کائنات ۱۰۸)

تاریخ کرام حکیم فیض عالم کی امام بخاری اور ابن شہاب پر اس شدید جرح کے بعد غیر مقلدین کو بخاری شریف پر سے اعتماد اٹھالینا چاہیے اور بخاری شریف کی ان سینکڑوں احادیث سے ہاتھ دھولینا چاہیے جن کی سند میں ابن شہاب موجود ہیں بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی رفع یدین والی حدیث اور حضرت عبادہؓ کی قرأت فاتحہ والی حدیث سے تو بالکل دستبردار ہو جانا چاہیے کیونکہ ان احادیث کی سند میں بھی ابن شہاب موجود ہیں، دیکھئے غیر مقلدین کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔

امام ترمذی پر حکیم فیض عالم کی تنقید

حکیم فیض عالم ترمذی شریف کی روایتوں پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”امام مسلم سے تقریباً ۲۱ برس بعد ابو عیسیٰ محمد ترمذی نے یہ وضعی روایات اپنی کتاب میں

درج کی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم کی وفات کے بعد کسی سبائی نکسال میں انہیں گھڑا گیا ہے۔“

(خلافت راشدہ ۱۱۸)

احناف حامی حدیث و سنت

تھوڑا پانی نجاست کے واقع ہونے سے ناپاک ہو جاتا ہے

تھوڑی نجاست ہو یا زیادہ

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اذا ولغ الكلب فی اناء احدکم فلیرقہ ثم لیغسلہ سبع
 مرار۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم
 سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے چاہیئے کہ وہ اُسے بہا کر سات مرتبہ
 دھو لے۔

(مسلم ج: 1 ص: 27)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الكلب ان یغسلہ سبع
 مرات اولاہن بالتراب۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے برتن
 کی پاکی جبکہ کتا اس میں منہ ڈال دے یہ ہے کہ اسے سات مرتبہ دھوئیں پہلی بار
 سے مانجھیں۔

(مسلم ج: 1 ص: 134، ابوداؤد ج: 1 ص: 10)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم
 یغتسل فیہ۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ پیشاب
 کرنے تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو کہ بہہ نہیں رہا پھر اسی میں غسل
 کرے۔

(بخاری ج: ۱: ۳۷)

☆ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منه

حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پھر اسی سے وضو کرے۔

(ترمذی ج: ۱: ۲۱)

☆ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استیقظ احدکم من اللیل فلا یدخل یدہ فی الاناء حتی یفرغ عنها مرتین او ثلثاً فانہ لا یدری این بابت یدہ

حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو سو کر اٹھے تو جب تک ہاتھوں پر دو یا تین دفعہ پانی نہ بہالے اس وقت تک پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ سے کہاں۔

(ترمذی ج: ۱: ۱۳)

مذکورہ احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب پانی میں نجاست گر جائے اور پانی تھوڑا ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا چاہے پانی کے تینوں اوصاف رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے کیونکہ ان احادیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں کہ ان تینوں وصفوں میں سے کوئی وصف بدلے تو پانی ناپاک ہوگا ورنہ نہیں۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ وہ اس

وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی چیز تبدیل نہ ہو۔

چنانچہ نواب نور الحسن لکھتے ہیں:

”آبِ بَارِئِیْنَ وَ دَرِیَا وَ چَاہِ طَاہِرِیْنَ وَ مَطْبَرِیْنَ پَلِیدِیْ نَمِیْ گِرُو د مَکْرِبِیْنَ جَاہِیْنَ کَہِ بُو یَا مِزِیَا رِیْغِیْ اَوْرِیْ

بِرْگِرْدَانْدِیْ۔“

(عرف الجادی ۹)

بارش، دریا اور کنویں کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا مگر

اس نجاست سے کہ جو اس کے رنگ یا بو یا مزہ کو بدل دے۔

نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”لَا یَفْسُدُ مَا، الْبَثْرُ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا وَالْمَاءُ فِيهِ قَلِيلًا بَوَقُوعِ

نِجَاسَةٍ أَوْ مَوْتِ حَيَوَانٍ دَمَوِيٍّ أَوْ غَيْرِ دَمَوِيٍّ وَلَوْ انْتَفَخَ أَوْ

بَفْسَخَ أَوْ تَمَعَطَ لَشَرَطِ أَنْ لَا يَتَغَيَّرُ أَحَدُ أَوْصَافِهِ“

(الخ)

کنوئیں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا اگرچہ کنواں چھوٹا ہو اور اس میں پانی تھوڑا ہو کسی

نجاست کے ٹرنے سے یا (اس میں) خون یا غیر خونی جانور کے مرنے سے اگرچہ وہ جانور

(مرکز) پھول گیا ہوا پھٹ گیا ہو، یا اس کے بال و پر گر گئے ہوں بشرطیکہ پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف نہ بدلے۔

(نزل الابرار ج: ۳۱)

ملاحظہ فرمائیے:

احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ تھوڑے پانی میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ رنگ، بو، مزہ بدلے یا نہ بدلے لیکن غیر مقلدین قلیل و کثیر میں تفریق کئے بغیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب جب تک رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی چیز نہ بدلے اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کارئین فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

نوٹ:

غیر مقلدین کے اس نظریہ کے مطابق اگر پانی کے ایک گلاس یا کسی ایک چھوٹے برتن میں پیشاب کے قطرے پڑ جائیں تو وہ پانی پاک ہونا چاہیے کیونکہ پیشاب کے قطروں سے پانی کے رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی چیز بھی نہیں بدلتی۔

احناف جامی حدیث و سنت
منی ناپاک ہے

☆

عن معاوية بن ابي سفيان انه سئل اخته ام حبيبة ز
 النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله
 الله وليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها
 فقالت نعم اذالم يرفيه اذى

حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ آپ نے اپنی ہم شیرہ اور حضور علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے جو آپ نے محبت کے وقت پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں لیکن اس وقت جب کہ آپ ان میں کوئی گندگی (منی) دیکھتے۔

(ابوداؤد ج: ۱ ص: ۳)

☆

عن ابي هريرة قال في المنى يصيب الثوب ان رأى
 فاغسله والا فاغسل الثوب كله

حضرت ابو ہریرہ نے منی کے متعلق جو کہ کپڑے کو لگ گئی ہو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہیں دکھائی دے تو اسے دھو لو ورنہ سارے کپڑے کو دھو۔

(طحاوی ج: ۱ ص: ۲۳)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں:

”دور نجاتے منی آدمی دلیلی نیامده“

آدمی کی منی کے ناپاک ہونے میں کوئی دلیل نہیں آئی،

(بدور الاحلہ ۱۵)

نواب نور الحسن لکھتے ہیں:

”منی ہر چند پاک است“

منی ہر صورت میں پاک ہے

(عرف المجادی ۱۰)

نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

☆ ”والمنی طاهر سواء كان رطبا او يابسا مغلظا او غير

مغلظ“

منی پاک ہے چاہے تر یا خشک گاڑھی ہو یا گاڑھی کے علاوہ

(کنز الحقائق ۱۶)

(نزل الابرار ج: ۱: ۳۹)

ملاحظہ فرمائیے:

احادیث میں صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ منی ناپاک ہے لیکن غیر مقلدین کہہ رہے

ہیں کہ نہیں صاحب منی بالکل پاک ہے اور اس کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔

قارئین فیصلہ فرمائیں کہ منی کو پاک کہنا احادیث کی موافقت کرنا ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

شراب کے ناپاک ہونے کی دلیل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَ

زُلَامٌ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اے ایمان والو! یہ جو ہے شراب اور جو اور بت اور پانسے سب گندے (اور) شی

کام ہیں۔ سو ان سے بچتے رہو تا کہ تم نجات پاؤ۔

☆ عن ابی ثعلبۃ الخشنی انه سأل رسول اللہ صلی ال

علیہ وسلم قال انا نجا وراہل الكتاب وهم یطبخون فی

قدورهم الخنزیر ویشربون فی انبتهم الخمر فقال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وجدتم غیرہ

فکلوا فیہا واشربوا وان لم تجدوا غیرہا فارضوہ

بالماء وکلوا واشربوا۔

حضرت ابو ثعلبہ خشنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عرض کیا کہ ہم

کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں یہ لوگ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے ہیں اور اے

برتنوں میں شراب پیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان کے

علاوہ دوسرے برتن ملیں تو ان میں کھاپی لو اور اگر دوسرے نہ ملیں تو پھر ان کو پانی سے

دھو کر (ان میں) کھاؤ پیو۔

(ابوداؤد ج ۲: ۱۸۱)

☆ عن عثمان قال اجتنبو الخمر فان رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سماها ام الخبائث

حضرت عثمانؓ (بن عفان) نے فرمایا کہ شراب سے بچو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ام الخبائث (تمام ناپاک چیزوں کی ماں) رکھا ہے۔

(القاصد، للسجادی، ۲۰۲)

☆ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم الخمر و ثمنها و حرم المیتة و ثمنها و حر الخنزیر و ثمنہ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے شراب اور اس کی قیمت کو، مردار اور اس کی قیمت کو، خنزیر اور اس کی قیمت کو۔

(ابوداؤد ج ۴: ۱۳۷)

آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ شراب ناپاک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوئے اور انصاب و ازالام کو جس قرار دیا ہے جس کے معنی ناپاک کی ہیں۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لین:

آیت کریمہ، احادیث و آثار اور اجماع امت کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے

شراب پاک ہے۔ شراب کو ناپاک کہنا بے دلیل ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے

ہیں۔

☆ "فتحریم الخمر والخبز الذی دلت علیہ النصوص

لا یلزم منه نجاستها بل لا بد دلیل آخر علیہ والا بقیہ

علی الاصول المتفق علیہا من الطہارۃ"

یعنی گدھوں اور شراب کے حرام ہونے سے کہ جس پر قرآن و حدیث دلالت کر رہے

ہیں۔ ان کا ناپاک ہونا لازم نہیں آتا۔ ان کے ناپاک ہونے کی دوسری دلیل ہونی

ضروری ہے ورنہ یہ متفق علیہ اصول یعنی طہارۃ پر باقی رہیں گے۔

(الروضۃ الندیۃ ج ۱: ۲۱۶)

نواب نور احسن لکھتے ہیں:

"حکم بنجاست خمرینا بزحمت بے دلیل باشد"

یعنی شراب کو حرام ہونے کی وجہ سے ناپاک کہنا بے دلیل ہے۔

(عرف الجادی ۲۳۷)

نواب وحید الزمان لکھتے ہیں:

"والمتی ظاہر..... وکذالك الخمر"

یعنی منی پاک ہے اور ایسے ہی شراب (بھی پاک ہے)

(نزل الابرار ج: ۱ ص: ۴۹)

ملاحظہ فرمائیے

آیت کریمہ، احادیث و آثار اور اجماع امت سے ثابت ہو رہا ہے کہ شراب ناپاک

ہے لیکن غیر مقلدین آیت کریمہ، احادیث و آثار اور اجماع امت کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ

شراب پاک ہے۔

قارئین کرام فیصلہ فرمائیں کہ یہ قرآن و حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

مردار، خون، خنزیر سب ناپاک ہیں

☆ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
 أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

الآية ۶: ۵

آپ فرمادیجئے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی چیز کو حرام
 کھانے والے پر جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو، یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت
 کہ وہ ناپاک ہے۔

☆ عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت حيش لرسول
 الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انى لا اطهر
 افادع الصلوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 انما ذلك عرق وليس بالحينة فاذا اقبلت الحينة
 فاتركى الصلوة فاذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم
 وصى

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت حیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
 کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز (پڑھنی)
 چھوڑ دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ (سے نکلنے والا خون) ہے
 حیض نہیں ہے اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دے اور جب اندازہ کے
 مطابق وہ ایام گزر جائیں تو خون کو دھو لے اور نماز پڑھ لے۔

(بخاری ج ۱: ۴۴)

☆ عن ابى ثعلبة الخشنى انه سال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم قال انا نجا وراهل الكتاب وهم يطبخون

فی قدورهم الخنزیر ویشربون فی آنتہم الخمر فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وجدتم غیرہا فکلوا
فیہا واشربوا وان لم تجدوا غیرہا فارضوها بالماء
وکلوا واشربوا۔

حضرت ابو ثعلبہ حسنیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عرض کیا کہ ہم اہل
کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں، یہ لوگ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے ہیں اور اپنے
برتنوں میں شراب پیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ان
کے علاوہ دوسرے برتن ملیں تو ان میں کھاؤ پیو اور اگر دوسرے نہ ملیں تو پھر ان کو پانی
سے دھو کر ان میں کھاؤ پیو۔

(ابوداؤد ج ۲: ۱۸۱)

آیت کریمہ اور احادیث و آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ مردار، خون، خنزیر تینوں نجس و

ناپاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردار، خون، خنزیر تینوں کو نجس کر کے فرمایا اِنَّہٗ رِجْسٌ یُّنَاطُکُمْ ہِیَ۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

آیت کریمہ اور احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ مردار، خون، خنزیر

سب پاک ہیں ان کو ناپاک قرار دینا صحیح نہیں۔

چنانچہ لو اب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں:

”وہم جنیس در آیت میتہ مرد ار حرام باشد نہ

نجس..... وہم جنیس استدلال بر نجاست خنزیر بلفظ رجس

کہا اینبغی نیست..... وہم جنیس در نجس بودن ہر خون

سننی صحیح ثابت نہ گشتہ“

(بدور الاحلہ ۱۵، ۱۶، ۱۸)

یعنی اسی طرح آیت میتہ میں مرد ار حرام ہو گا ناپاک نہیں..... اور ایسے ہی خنزیر

کے ناپاک ہونے پر لفظ رجس سے استدلال کرنا مناسب نہیں ہے..... اور اسی طرح ہر خون

کے ناپاک ہونے پر کوئی صحیح سنت ثابت نہیں ہوئی۔

لو اب نور الحسن لکھتے ہیں:

”دعویٰ نجس عین بودن سگ و خنزیر و پلید بودن خمر و دم مسلوح و حیوان مردار تا تمام

است۔“

یعنی کتے اور خنزیر کے نجس العین ہونے کا، شراب، پینے والے خون اور مردار جانور کے

پلید ہونے کا دعویٰ تا تمام ہے۔“

(عرف الجادی ۱۰)

ملاحظہ فرمائیے:

قرآن و حدیث سے صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ مردار خون، خنزیر ناپاک ہیں۔

لیکن غیر مقلدین حضرات کا کہنا ہے کہ مردار، خون، خنزیر پاک ہیں ان کو ناپاک کہنا صحیح نہیں۔

تاریخین فیصلہ فرمائیں کہ یہ قرآن و حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

(کتا ناپاک ہے)

☆ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیرقہ ثم لیغسلہ سبع
مرار۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتاب میں
سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے چاہیے کہ وہ سے بہا کر سات مرتبہ
دھوے۔

(مسلم ج: ۱: ۱۳۷)

☆ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ سبع
مرات اولاً ہن بالتراب۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے برتن کی
پاکی جب کہ کتاب اس میں منہ ڈال دے یہ ہے کہ اسے سات مرتبہ دھوئیں پہلی مرتبہ مٹی
سے مانجھیں۔

(مسلم ج: ۱: ۱۳۷، ابوداؤد ۱۰)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

ہیں:

ان احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ کتابھی پاک کتے کا لعاب بھی کتے کا جھوٹا بھی پاک کتے کا پیشاب بھی پاک کتے کا پاخانہ بھی پاک، ولا حول ولا قوة الا بالله۔

چنانچہ نواب صدیق حسن خاں صاحب لکھتے ہیں:

”وحدیث دلوغ کلب دال برنجاست تمامہ کلب و دم و شعر و عرق نیست
 ایں احکم مختص بولوغ اوست“۔

(بدور الاحلہ)

یعنی کتے کے منہ ڈالنے والی حدیث پورے کتے اس کے خون، بال اور پسینے
 ناپاک ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ یہ حکم تو صرف اس کے منہ ڈالنے کے ساتھ خاص ہے۔
 نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”واختلفوا فی لعاب الكلب و الخنزیر و سورهم
 و الارجح طهارته كما مر و كذلك فی بول الكلب و خراذ
 و الحق انه لا دلیل علی النجاسة“

لوگوں نے کتے، خنزیر اور ان کے جھوٹے کے متعلق اختلاف کیا ہے زیادہ رائج بات یہ ہے
 کہ ان کا جھوٹا پاک ہے جیسا کہ گزر چکا اور ایسے ہی لوگوں نے کتے کے پیشاب پاخانہ
 کے متعلق اختلاف کیا ہے حق بات یہ ہے کہ ان کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔

(نزل الابرار ج: 1، 530-539)

ملاحظہ فرمائیے

احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ کتا اور اس کا جھوٹا ناپاک ہے لیکن غیر مقلدین کہہ
 رہے ہیں کہ نہیں صاحب کتا، کتے کا لعاب، کتے کا جھوٹا، کتے کا پیشاب، کتے کا پاخانہ سب پاک
 ہیں۔ ان کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔

قارئین فیصلہ فرمائیے، یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف جامی حدیث و سنت

حلال و حرام سب جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے

☆ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اکثر عذاب القبر من البول،

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اکثر قبر کا عذاب

پیشاب (سے نہ بچنے) کی وجہ سے ہوتا ہے۔

(متدرک حاکم ج ۱: ۱۸۳)

☆ عن ابی ہریرۃ مرفوعاً استنزهوا من البول فان عامة

عذاب القبر منه

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو

کیونکہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب (سے نہ بچنے) کی وجہ سے ہوتا ہے۔

(فتح الباری ج ۲: ۲۸۹)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ جانوروں کا پیشاب پاک
حلال جانوروں کا پیشاب ہو یا حرام جانوروں کا چنانچہ
نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”والمنی طاهر وكذلك الدم غير دم الحيضة وكذلك
رطوبة الفرج وكذلك الخمر وبول ما يثوكل لحمه وما
يؤكل لحمه من الحيوانات“

یعنی منی پاک ہے، ایسے ہی حیر کے خون کے علاوہ باقی خون، شرمگاہ کی رطوبت
شراب اور حلال و حرام جانوروں کا پیشاب سب پاک ہیں۔

(نزل الابرار ج: 1 ص: 29)

ملاحظہ فرمائیے:

احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے خواہ کسی کا بھی ہو لیکن غیر مقلدین
کا کہنا ہے حیوانات کا پیشاب پاک ہے خواہ حلال یا حرام۔
قارئین فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

وضو کے فرائض

صرف پگڑی پر مسح صحیح نہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

☆

(الآية: ٥: ٦)

اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھوؤ اور اپنے ہاتھوں کو
کہنیوں سمیت (دھوؤ) اور اپنے سر پر مسح کرو اور اپنے چہروں کو بھی ٹخنوں سمیت (دھوؤ)

عن انس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت
العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة

☆

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوہ
فرماتے ہوئے دیکھا آپ کے سر مبارک پر قطری پگڑی تھی۔ آپ نے پگڑی کے نیچے
سے ہاتھ ڈال کر سر کے اگلے حصے پر مسح فرمایا اور پگڑی کو کھولا نہیں۔

(ابوداؤد ج: ۱۹: ۱۹)

قال الشافعي اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن
رأسه ومسح مقدم رأسه اوقال ناصيته بالماء۔

☆

حضرت عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو
اپنی پگڑی کو سر سے اوپر کیا، اور سر کے اگلے حصے پر مسح فرمایا۔ یا حضرت عطاء نے فرمایا
کہ آپ نے اپنی ناصیت پر مسح فرمایا پانی سے۔

(کتاب الام ج: ۱۶: ۲۶)

عن ابن عمر انه كان اذا مسح رأسه رفع القنسوة ومسح
مقدم رأسه۔

☆

حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب اپنے سر پر مسح فرماتے تو ٹوپی سر سے ہٹا لیتے اور سر کے

انگلی حصہ پر مسح فرماتے۔

(رواہ الدار قطنی ج: ۱ ص: ۷۷)

☆ عن مالك انه بلغه ان جابر بن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح بالشمال بالماء

حضرت امام مالک سے مروی ہے کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے پگڑی پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا جائز نہیں ہے جب تک بالوں کا پانی سے مسح نہ کرے۔

(مؤطا امام مالک ۲۳)

☆ مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء۔

حضرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ وہ سر سے پگڑی ہٹا کر پانی سے سر پر مسح فرماتے تھے۔

(مؤطا امام مالک ۲۳)

آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ دوران وضو سر پر مسح کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے لہذا جو شخص دوران وضو سر پر مسح نہیں کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے سر پر پگڑی یا ٹوپی ہو تو دوران وضو یا تو ان کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سر پر مسح کرے یا پھر سر سے پگڑی یا ٹوپی اتار کر مسح کرے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

آیت کریمہ اور احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ سر پر مسح کے بغیر

صرف ٹوپی یا پگڑی پر بھی مسح کر لینا کافی ہے، چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب کے نزدیک
تبا پگڑی پر بھی مسح صحیح ہے۔

(الروضۃ الندیۃ ج: ۱ ص: ۳۹)

عبداللہ روپڑی صاحب لکھتے ہیں:

”صرف پگڑی پر بھی مسح کافی ہے۔“

(فتاویٰ الہدیٰ ج: ۱ ص: ۲۷۸)

نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”والجمع بین الصلوٰتین والمسح علی الخفین والمسح

علی العمامۃ والجوربین جائز عندنا۔“

”نمازوں کو اکٹھا پڑھنا، موزوں پر مسح کرنا اور پگڑی و جرابوں پر مسح کرنا ہمارے

زودیک جائز ہے۔“

(تزل الابرار ج: ۱ ص: ۷)

ملاحظہ فرمائیے:

اللہ تعالیٰ تو سر پر مسح کا حکم دے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سر پر پگڑی وغیرہ
ہونے کی صورت میں پگڑی ہٹانے یا اس کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سر پر مسح کرنے کا طریقہ تعلیم
فرما رہے ہیں۔ اسی پر صحابہ کرام کا عمل ہے، اور اسی پر صحابہ کرام اور ائمہ عظام کا فتویٰ ہے۔ لیکن
غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب صرف پگڑی وغیرہ پر بھی مسح کافی ہے۔ سر پر مسح کرنے
کے لئے پگڑی وغیرہ ہٹانے کی ضرورت نہیں۔

قارئین فیصلہ فرمائیں کہ یہ قرآن و حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔

(الآية: ٥)

”اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھوؤ اور اپنے ہاتھوں
کو کہنیوں سمیت (دھوؤ) اور اپنے سر پر مسح کرو اور اپنے چہروں کو بھی ٹخنوں سمیت
(دھوؤ)۔“

☆ عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله
عليه وسلم في سفر سافرناه فادر كنا وقد حضرت العصر
فجعلنا نمسح على ارجلنا فنأدى ويل للاعقاب من
النار۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک سفر میں جو ہم نے
آپ کے ساتھ کیا تھا ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر آپ نے ہم کو پالیا اس اثناء میں عصر
وقت ہو گیا۔ ہم اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ نے پکار کر فرمایا ایڑیوں کے لئے
بلاکت ہے آگ سے۔

(مسلم ج: ۱ ص: ۱۲۵)

☆ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً
لم يغسل عقبه فقال ويل للاعقاب من النار،

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص نے (دوران وضو) اپنی ایزی نہیں جھونئی تو آپ نے فرمایا ایزیوں کے لئے ہلاکت ہے آگ سے۔

(مسلم ج ۱: ۱۲۵)

آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ دوران وضو پاؤں (میں موزے نہ ہوں تو ان) کا دھونا فرض ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اگر کسی نے وضو کرتے ہوئے پاؤں نہ دھوئے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرامین سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ پاؤں میں موزے نہ ہوں تو ان کا دھونا فرض ہے۔ کیونکہ آپ ذرا سی ایزی کے خشک رہ جانے پر اتنی وحید فرما رہے ہیں جبکہ میں تو اکثر پاؤں ہی خشک رہتا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام کا ہمیشہ کا عمل یہی تھا کہ دوران وضو پاؤں میں موزے نہ ہوتے تو پاؤں کو اچھی طرح دھوتے اسی پر اتنا احتیاط تھا۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن

آیت کریمہ احادیث مبارکہ اور اجتماع امت کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اور ان اعضا پاؤں پر مسح کرے تو اسے منع نہیں کرنا چاہئے۔ ایک غیر مقلد صاحب اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ فرمایا کہ مسح ہی فرض ہے۔

چنانچہ نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”ولا يجوز الانكار على امور مختلفة فيها بين العلماء

كفسل الرجل ومسحه“

یعنی جن امور میں علماء کے درمیان اختلاف ہے ان پر انکار جائز نہیں جیسا کہ (دوران وضو) پاؤں کا دھونا اور اس کا مسح کرنا۔

(هدية المهدي ج: ۱: ۶۸)

مولوی ابراہیم لکھتے ہیں:

”پاؤں دھونے کے بجائے مسح فرض ہے“

(فتاویٰ ابراہیمیہ ۴۱)

ملاحظہ فرمائیے:

قرآن و حدیث تو پاؤں کے دھونے کو فرض قرار دے رہے ہیں۔ اسی پر حضور علیہ افضلۃ والسلام صحابہ کرام اور ائمہ عظام کا عمل ہے لیکن غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پورا پاؤں نہ دھوئے صرف مسح ہی کر لے تو بھی صحیح ہے اسے روکنا نہیں چاہیے بلکہ مسح ہی فرض ہے۔

قارئین کرام فیصلہ فرمائیے یہ قرآن و حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

گردن (گدی) پر مسح کرنا مستحب ہے

☆ عن ابن عمران النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من
 تویضاً مسح یدیه علی عنقه امن یوم القیمة من الغل
 حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا
 اور دونوں ہاتھ اپنی گردن (گردن) سے ڈو دو قیامت تک (یعنی طوق) پہنانے
 (جانے) سے مامون رہے گا۔

اسناد بروی مع تصدیق القوی ج ۳: ۱۳۳

☆ عن موسی بن طلحة قال من مسح قفاه مع رأسه وقی
 الغل یوم القیمة قلت فیعمل ان یقال هذا وانکان
 موقوفاً فله حکم الرفع

”حضرت موسی بن طلحہ فرماتے ہیں جس نے اپنے سر سے ساتھ گدی کا بھی مسح کیا وہ
 قیامت کے دن طوق (پہنائے جانے) سے بچا لیا جائے گا، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں
 کہ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے۔“

(التلخیص الجیر ج ۱: ۹۲)

☆ عن وائل بن حجر (فی حدیث طویل) فغسل وجهه ثلاثاً
 وخلل لحيته ومسح باطن اذنيه ثم ادخل خنصره فی
 داخل اذنه لیبلغ الماء ثم مسح رقبتہ وباطن لحيته من
 فضل ماء الوجه۔

حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے چہرہ کو تین
 مرتبہ دھویا پھر داڑھی میں خلال کیا اور کانوں کے اندر مسح فرمایا۔ چنگلی کان میں ڈال کر
 کرنا کہ پانی پہنچ جائے پھر آپ نے گردن (گدی) کا اور داڑھی کے اندر کے حصے کا
 مسح کیا چہرہ کے بچے ہوئے پانی سے۔

(معجم طبرانی کبیر ج ۲۲: ۲۲)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ احادیث میں گردن پر مسح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ گردن پر مسح کرنا "احداث فی الدین" ہے بدعت ہے۔

چنانچہ حکیم صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں:

"گردن کے مسح کا احادیث میں کہیں ذکر نہیں"

(صلاة الرسول ۸۳)

مفتی عبدالستار لکھتے ہیں:

"اور گردن کا مسح کسی حدیث میں نہیں بلکہ احداث فی الدین ہے۔"

(فتاویٰ ستاریہ ج ۳: ۵۳)

خالد حسین گرجا کی لکھتے ہیں:

"دخو میں گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں بلکہ بدعت ہے۔"

(صلاة النبی ۷۰)

ملاحظہ فرمائیے:

یہ ہے غیر مقلدین کی حدیث دانی اور عمل بالحدیث کی حالت کہ ذخیرہ احادیث میں گردن کے مسح کی کئی حدیثیں موجود ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ گردن کے مسح کا احادیث میں کوئی ذکر نہیں، احادیث سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے گردن (گردی) پر خود بھی مسح کیا ہے اور لوگوں کو بھی ترغیب دی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ گردن پر مسح بدعت ہے۔ یہ ہے غیر مقلدین کا نتیجہ کہ بے دھڑک فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہہ دیا۔ (العیاذ باللہ)

قارئین کرام فیصلہ فرمائیں کہ حضور اکرم ﷺ کے فعل کو بدعت کہنا یہ حدیث کی

موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

بدن کے کسی حصہ سے خون نکل کر بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے

☆ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من اصاب قبيئ او رعاف او قلس او مذي فلينصرف

فليتوضا ثم ليبن على صلواته وهو في ذلك لا يتكلم

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دوران نماز انہی

ہو جائے یا تکسیر بہہ پڑے یا منہ بھر کرتے ہو جائے یا مزی نکل آئے تو اسے چاہیے کہ

جا کر وضو کرے اور نماز پر بناء کرے بشرطیکہ اس دوران کوئی بات چیت نہ کی ہو۔

(ابن ماجہ ۸۷)

☆ عن عائشة انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش

لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا

اطهر افادع الصلوة فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم انما ذلك عرق وليس بالحیضة فاذا اقبلت

الحيضة فاتركي الصلوة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك

الدم واصلی

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز پڑھنی

چھوڑ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ سے نکلنے والا خون ہے۔

اس لئے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دے اور جب اندازہ کے مطابق وہ ایام

گزر جائیں تو خون کو دھو لے اور نماز پڑھ لے۔

(بخاری ج: ۱: ۴۴)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ بدن کے کسی حصہ سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

چنانچہ نواب نور الحسن لکھتے ہیں:

”وہی حکمت از بر آمدن خون دتے“

خون نکلنے اور تے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

(عرف الجادی)

نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”فلا ينقض بخروج الدم من غير السيلين“

ولوسال..... والدم انحارج من الجروح والثبور لا ينقض

وكذا القيح والصدید“

پیشاب پاخانہ کی جگہ کے علاوہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگرچہ وہ

پڑے..... وہ خون جو زخموں سے نکلے وہ بھی وضو نہیں توڑتا ایسے ہی خالص پیپ اور خون

پیپ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔

(نزل الامار ج: ۱: ۸)

یونس قریشی صاحب لکھتے ہیں:

”بدن سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا“

(دستورالمتن ۷۷)

ملاحظہ فرمائیے:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے خون نکل کر بہہ پڑے

وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

قارئین کرام فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

تے آنے اور نکسیر بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے

☆ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قبيئ او عاف او قلنس او مذي فليتوضأ فليتوضأ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دوران نماز اٹنی ہو جائے یا نکسیر بہہ جائے یا منہ بھر کر تے ہو جائے یا غدی نکل آئے تو اسے چاہئے کہ جا کر وضو کرے۔

(ابن ماجہ ص ۱۰)

☆ عن ابی الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق فذکرت ذالک له فقال صدق وانا صببت له وضوئه۔

حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کو تے ہوئی تو آپ نے وضو فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق میں حضرت ثوبان سے ملا تو میں نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا انہوں نے فرمایا کہ ابو درداء نے سچ کہا اور میں نے ہی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وضو کا پانی ڈالا تھا۔

(ترمذی ص ۲۵)

☆ عن ابن عمر انه كان اذا رَعَف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع وبني علي ما قد صلى۔

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب کبھی ان کی نکسیر پھوٹ جاتی تو لوٹ کر وضو کرتے اور بات چیت نہ کرتے پھر واپس آ کر پڑھی ہوئی نماز پر بنا کر لیتے۔

(بیہقی ج ۱: ۲۵۹)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ قئے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

چنانچہ نواب نور الحسن لکھتے ہیں:

”وہی شکر از بر آمدن خون و قئے“

یعنی خون نکلنے اور قئے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

(عرف الجادی ص ۳)

نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”و كذ القبح والصدید“

ایتی تنی خالص پیپ اور خون آلود پیپ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

(نزل الامراز ج: ۱ ص: ۱۸)

کارین کرام فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے

عن ابی موسیٰ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اذ دخل رجل فتردی فی حفرة کانت فی المسجد وکان فی بصره ضرر فضحک کثیر من القوم وهم فی الصلوة فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید الوضوء وبعید الصلوة۔

حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور مسجد کے ایک کڑھے میں گر گئے۔ ان صاحب کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ بہت سے لوگ دوران نماز ہی ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وضو اور نماز دونوں کے لوٹانے کا حکم دیا۔

(رواہ الطبرانی فی الکبیر مجمع الزوائد ج ۱: ۲۳۶)

عن ابی العالیہ (الریاحی) ان رجلا اعفی تردی فی بئر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ فضحک بعضهم من کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحک منهم ان یعید الوضوء والصلوة۔

حضرت ابو العالیہ الریاحی سے مروی ہے کہ ایک نابینا آدمی ایک کنوئیں میں گر پڑا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ہنس پڑے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہنسنے والوں کو حکم دیا کہ وہ وضو اور نماز دونوں لوٹائیں۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۱: ۳۷۶)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنن

لیکن:

ان احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ قبضہ لگانے سے وضو نہیں

چنانچہ نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”ولا ینقض بالقہقهة ولو من مصل بالغ فی صلاة“

یعنی قبضہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگرچہ بالغ نمازی کامل نماز میں قبضہ لگائے

(نزل الامیر)

ملاحظہ فرمائیے:

یہ بے غیر مقلدین کا عمل بالحدیث کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

میں کہ دوران نماز قبضہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب

سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

قارئین کرام فیصدہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف جامی حدیث و سنت

اعضاء وضو میں سے ذرا سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا

عن جابر رضی اللہ عنہ قال اخبرنی عمر بن الخطاب ان رجلا تویض، فترك موضع ظفر علی قدمه فابصره النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فاحسن وضوئک فرجع ثم صلی۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمرؓ نے بتلایا کہ ایک شخص نے وضو کیا اور ناخن کے برابر جگہ اپنے پاؤں پر (خشک) چھوڑ دی۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اچھی طرح سے وضو کرو۔ وہ گیا (اور اچھی طرح وضو کر کے) نماز پڑھی۔

(مسلم ج: ۱: ۱۲۵)

مذکورہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ دوران وضو اگر اعضاء وضو میں سے کوئی جگہ ناخن

کے برابر خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا..... ہر آدمی جانتا ہے کہ ناخن پالش لگانے سے ناخن خشک

رہتے ہیں اس لئے اگر کسی نے ناخن پالش لگالی ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

اس حدیث اور اتنی عام فہم بات کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ ناخن ہونے کے باوجود وضو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ روپڑی صاحب ایک سوال کا جواب سوال و جواب دونوں ملاحظہ فرمائیے۔

سوال: کیا عورت ناخن پالش ناخنوں پر لگا کر وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ بعض ہیں کہ ناخن پالش لگا کر وضو کرے تو وضو نہیں ہوتا؟

جواب: ناخن پالش مہندی کی قسم سے مہندی کا رنگ بھی دو تین دفعہ لگانے سے گاڑ ہو جاتا ہے جو بالاتفاق جائز ہے ایسا ہی ناخن پالش کو سمجھ لینا چاہیے۔

(فتاویٰ الہدیث)

ملاحظہ فرمائیے:

غیر مقلدین کے مجتہد العصر صاحب کو چاہئے تھا کہ اس سوال

جواب حدیث سے دیتے کیونکہ غیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے لیکن چونکہ اس مسئلہ سے متعلق کوئی حدیث تھی نہیں اور جواب دینا ضروری تھا اس صاحب نے خود اجتہاد کیا وہ اس طرح سے کہ ناخن پالش کو مہندی پر قیاس کیا اور حکم لگایا کہ مہندی لگانے سے وضو ہو جاتا ہے تو ناخن پالش سے بھی وضو ہو جائے گا۔ لیکن مجتہد صاحب اس قیاس میں بُری طرح ٹھوکر کھائی اور غلط قیاس کر بیٹھے، جو لوگ ائمہ مجتہدین کے قیاسات قرار دینے پر تلے ہوئے ہوں وہ خود کیسے صحیح قیاس کر سکتے ہیں۔ ناخن پالش قطعاً مہندی کی نہیں ہے کیونکہ مہندی میں انسانی صنعت کو دخل نہیں۔ مہندی کے پتے ہوتے ہیں جنہیں پانی میں ڈال کر گوندھ لیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر لگانے سے رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جبکہ پر مہندی کا کوئی جو بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کے برعکس ناخن پالش خالص انسانی صنعت ہے

کے ناخنوں پر لگانے سے ناخنوں پر کوئی رنگ نہیں چڑھتا بلکہ ناخنوں پر رنگ دار روغن رہتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جو نمی ناخن پالش اترتی ہے ناخن صاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی رنگ نظر نہیں آتا
دوسرے مہندی کا رنگ گہرا ہوتا ہے، ناخن پالش کی طرح اس کی تہہ نہیں بن جاتی جو پانی کو ناخن
تک پہنچنے سے روک سکے۔ تیسرے مہندی کا رنگ پانی کے ناخن تک سرایت کرنے کو نہیں روکتا
جبکہ ناخن پالش پانی کے سرایت کرنے کو روکتی ہے۔ اس کا تجربہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ کسی
صاف کاغذ پر مہندی کا رنگ چڑھائیں اور مہندی ہٹالیں اور اس پر پانی ڈال کر دیکھیں پانی سرایت
کر جائیگا اس کے بعد کاغذ پر ناخن پالش لگائیں اور اس پر پانی ڈالیں پانی نیچے سرایت نہیں کرے
گا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ناخن پالش پانی کے سرایت کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ لہذا
جب پانی ناخنوں تک نہیں پہنچتا تو وضو کیسے ہو جاتا ہے۔ غیر مقلدین جو اس انوکھے اجتہادی فتوے
پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ سراسر حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تو ناخن کے برابر جگہ
خشک رہ جانے سے وضو کے لوٹانے کا حکم دیتے ہیں اور یہ ہیں کہ ۱۰-۲۰ ناخنوں کی جگہ خشک رہ
جانے پر بھی وضو کے لوٹانے کا حکم نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں کہ وضو ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ ہے
حدیث کے مقابلہ میں قیاس پر عمل جس کا الزام غیر مقلدین حضرات احناف پر لگاتے نہیں تھکتے۔

الجھا ہے پاؤں یار کا زلفِ دراز میں

لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

عمل بالحدیث کے دعویدار بتلائیں کہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس پر عمل کرنا۔ یہ

حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

کیا کپڑے کے ٹخنوں سے نیچا ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا نہ کسی حدیث
میں تذکرہ ہے نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مسلک ہے ہاں غیر مقلدین نے اسے نواقض وضو میں شمار
کیا ہے ان کے نزدیک اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو از سر نو وضو کرنا چاہئے۔ چنانچہ یونس
قریشی صاحب رقمطراز ہیں۔

”ٹخنوں سے نیچے پا جامہ پہننے والوں کو از سر نو وضو کرنا چاہئے“۔

(دستورالسنن ۷۸)

احناف حامی حدیث و سنت

پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ رو ہونا اور پیٹھ کرنا منع ہے

☆ عن ابی ایوب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیمت الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا فابوا یوب فقدمنا الشام فوجدنا مرا حیض قد بنیت القبلة فنحرف عنها ونستغفر اللہ۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے جب تم بیت الخلاء آؤ تو پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹھ البتہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ حضرت ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ لوگ ملک شام میں آئے تو ہم نے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے پائے تو ہم تبدیل کر لیتے تھے اور اللہ سے استغفار کر لیتے تھے۔

(بخاری ج: ۱، ۵۷، مسلم ج: ۱، ۱۳۰ واللفظ)

☆ عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس احدکم علی حاجتہ فلا یستقبلن القبلة ولا یتدبرھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم سے قضاء حاجت کے لئے بیٹھے تو وہ ہرگز ہرگز قبلہ کی طرف رخ کرے نہ پیٹھ۔

(مسلم ج: ۱، ۱۳۰)

☆ عن معقل بن ابی معقل الاسدی قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلتین ببول او غائط۔ حضرت معقل بن ابی معقل اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب پاخانہ کرتے وقت دونوں قبلوں کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا ہے

(ابوداؤد ج: ۱، ۱۳۰)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان صحیح، صریح، مرفوع احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ رو ہونا یا پشت کرنا بالکل جائز ہے۔ ناجائز ہونا تو دور رہا مکروہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ محمد یونس قریشی صاحب لکھتے ہیں:

”مگر گھر میں یا کسی چیز کی آڑ میں جائز ہے“

(دستورالمتقی ۴۵)

نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”ولا یکرہ الا استقبال والاسد بار للاستنجاء“

استنجا کرتے وقت قبلہ رو ہونا اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا مکروہ نہیں ہے۔

(نزل الامار ج ۱: ۵۳)

ملاحظہ فرمائیے:

اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت ہرگز قبلہ رو نہ ہونا۔ صحابہ کرام آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ استنجا خانے قبلہ رخ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو خود رخ بدل لیتے ہیں لیکن وائے نادانی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں صاحب منع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ رو ہونا اس کی طرف پیٹھ کرنا بالکل جائز ہے۔

احناف حامی حدیث و سنت

تیمم میں دو ضربیں ہیں

☆ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال
التیمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للوجه ولليدين
الی المرفقين۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
تیمم میں دو ضربیں ہوتی ہیں ایک ضرب چہرہ کے لئے اور ایک کہنیوں سمیت دونوں
ہاتھوں کے لئے۔

(مستدرک حاکم ج: ۱: ۱۷۹)

☆ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان ینم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربتین ضربة للوجه وضربة
لليدين الی المرفقين۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم دو ضربیں تھا ایک
ضرب چہرہ کے لئے اور دوسری کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے لئے۔

(جامع المسانید ج: ۱: ۲۳۳)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ تیمم میں صرف ایک ہی ضرب

ہوتی ہے اور کسی حدیث میں دو ضربوں کا ذکر نہیں۔

چنانچہ نواب نور الحسن لکھتے ہیں:

”تیمم نیک ضربہ ست بر زمین“

تیمم ایک ضرب ہے زمین پر۔

(عرف الجادی ۱۶)

نواب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں:

”وور احادیث صحیحہ جزیک ضربہ از برای وجہ

وکفین دیگر، بیج نیامدہ“

(بدور الاحلہ ۳۵)

صحیح احادیث میں چہرہ اور ہتھیلیوں کے لئے سوائے ایک ضرب کے اور کچھ نہیں آیا۔

احناف حامی حدیث و سنت

حیض کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت

☆ عن وائل بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام -

حضرت وائل بن اسقع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حیض کی کم

از کم مدت ۳ دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

(دارقطنی ج: ۱: ۲۱۹)

☆ عن الحسن ان عثمان بن ابي العاص الثقفي قال

الجائض اذا جاوزت عشرة ايام فهي بمنزلة المستحاضة

تغسل و تصلی۔

حضرت حسنؓ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے

فرمایا حائضہ عورت جب دس دنوں سے تجاوز کر جائے تو وہ بمنزلہ مستحاضہ عورت کے

لئے ہے غسل کر کے نماز پڑھے گی۔

(دارقطنی ج: ۱: ۲۱۰)

مذکورہ احادیث و آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ حیض کی کم از کم مدت ۳ دن اور زیادہ سے

زیادہ دس دن ہے۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ حیض کی اقل و اکثر کوئی مدت متعین نہیں اور نہ ہی تعین مدت پر کوئی دلیل موجود ہے۔

چنانچہ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

”و در تقدیر اقل و اکثر حیض آنچه بتمسک اردو نیا

مدہ“۔

(بدور الاحاطة: ۳۵)

اور حیض کی اقل و اکثر مدت کے تعین سے متعلق کوئی قابل تمسک دلیل نہیں آئی۔

نواب نور الحسن خاں لکھتے ہیں:

”نیست مدت برائے اقل و اکثر حیض..... و در شرع دلیلی از برائے اقل و اکثر طہر

و حیض نیامدہ“۔

(عرف الجاوی: ۱۶)

اور اقل و اکثر حیض کی کوئی مدت متعین نہیں اور شریعت میں اقل و اکثر طہر و حیض کے

متعلق کوئی دلیل نہیں آئی۔

نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”ولا حد لا قله و اکثرہ“

(نزل الامار ج: ۱: ۴۵)

اقل و اکثر حیض کی کوئی حد نہیں۔

ملاحظہ فرمائیے:

احادیث و آثار سے تو حیض کی اقل و اکثر مدت ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن غیر مقلدین

احناف حامی حدیث و سنت

طہارت کے بغیر قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں

☆ لا یمسہ الا المطہرون۔

☆ نہیں چھوتے اس (قرآن) کو مگر پاک لوگ۔

(القرآن)

☆ عن حکیم بن حزام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما

بعثہ والیا الی الیمن قال لا تمس القرآن الا وائت طاهر،

حضرت حکیم بن حزام سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب انہیں یمن کا

حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم قرآن کو نہ چھو مگر اس حالت میں کہ تم پاک ہو۔

(مستدرک حاکم ج ۳: ۴۸۵، دارقطنی ج ۱: ۱۲۲)

☆ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال لا یمس القرآن الا طاهر۔

حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو

پاک آدمی کے سوا کوئی نہ چھوئے۔

(رواہ الطبرانی فی الکبیر مجمع الزوائد ج ۱: ۲۷۶)

☆ کان ابو وائل یرسل خادمہ وہی حائض الی ابی رزین

فتاتیہ بالمصحف فتمسک بعلاقته۔

حضرت ابو وائلؓ اپنی خادمہ کو حالت حیض ہی میں حضرت ابو رزینؓ کے پاس بھیجتے تھے

اور خادمہ ان کے یہاں سے قرآن مجید ڈوری سے پکڑ کر لاتی تھی۔

(بخاری ج ۱: ۴۳)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

آیت کریمہ احادیث و آثار اور اجتماعات کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لئے طہارت شرط نہیں ہے۔ طہارت کے بغیر بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ چنانچہ نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”وقیل لا یشرط الطہارۃ لمس المصحف وجزم بہ

الشوکانی وغیرہ من اصحابنا“

اور کہا گیا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لئے طہارت شرط نہیں ہے اسی پر ہمارے اصحاب میں سے شوکانی وغیرہ نے جزم کیا ہے۔

(نزل الابرار ج: ۱: ۹)

نواب نور الحسن لکھتے ہیں:

”اگرچہ محدث رامس مصحف جائز باشد“

اگرچہ بے وضو شخص کے لئے قرآن کو چھونا جائز ہے۔

(عرف الجادی ۱۵)

ہیں کہ طہارت کے بغیر قرآن مجید کو چھونا جائز ہے۔
رہے ہیں کہ نہیں صاحب قرآن کو بلا طہارت بھی چھونا جائز ہے۔

احناف حامی حدیث و سنت

کپڑوں کا اور بدن کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے

☆ عن عائشة انها قالت قالت فاطمة بنت ابی حنیفہ

لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی

اطهر افادع الصلوٰۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم انما ذلک عرق لیس بالحیضۃ فاذا اقبلت الحيض

فاتركی الصلوٰۃ فاذا ذهب قدرها فاغسلی عنک الذ

صلی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ فاطمہؓ بنت ابوحنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز

چھوڑ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ سے نکلنے والا خون

نہیں ہے۔ اس لئے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑو۔ (بخاری ج ۱: ۲۳)

☆ عن ابی سعید الخدری..... قال بینما رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ افخلع نعلیہ
فوضعهما عن یسارہ فلما رای القوم ذالک القوانعالہم
فلما قضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ قال
ما حملکم علی القائمکم نعالکم قالوا رأیناک القیت
نعلیک فالقینا نعالنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا۔

حضرت ابو سعید درمی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صحابہ کرام کو نماز پڑھا
رہے تھے کہ اچانک آپ نے جوتیاں اتار کر بائیں طرف رکھ دیں صحابہ کرام نے یہ
دیکھا تو انہوں نے بھی جوتیاں اتار دیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز سے قاہرغ
بہ لے کر کیا ہم نے

ہو کر پوچھا کہ تمہیں کچھ دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ مجھے تو جبریل امین نے آکر خبر دی تھی کہ جوتیوں میں ناپاکی (لگی ہوئی) ہے۔

(ابوداؤد، ج: ۱، ص: ۹۵)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کے خلاف غیر مقلدین حضرات کا بلا تفریق یہ کہنا ہے

کہ اگرچہ بدن پر نجاست لگی ہوئی ہو اور کپڑے بھگ ناپاک ہوں تاہم نماز صحیح ہو جائے گی۔ نماز کے صحیح ہونے کے لئے بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا شرط نہیں۔

چنانچہ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

”فمن صلیٰ بلا بسالنجانة عامدا فقد اخل بواجب

وصلاة صحیحہ“

جس شخص نے جان بوجھ کر نجاست لگے ہوئے نماز پڑھی اس نے واجب میں خلل ڈالا

البتہ نماز اس کی صحیح ہے۔

نیز فرماتے ہیں:

”وصحیحہ“

گردانیدن کما ینبغی نسبت“

نماز کے صحیح ہونے کے لئے اٹھائی ہوئی چیز اور پئے ہوئے کپڑوں کے پاک ہونے کو

شرط قرار دینا مناسب نہیں۔

(بدور الاحلۃ ۳۹)

نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں:

”یادر جامعہ ناپاک نماز گزار و نمازش صحیح ست“

ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہے۔

(عرف الجاری ۲۲)

ملاحظہ فرمائیے:

آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز صحیح ہونے کے لئے

کپڑے اور بدن کا ناپاک ہونا شرط ہے۔ ناپاک کپڑوں میں اور ناپاک بدن سے نماز صحیح

نہیں ہوگی۔ لیکن غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب طہارت کو شرط قرار دینا مناسب نہیں۔

ناپاک لگے ہوئے بھی نماز صحیح ہے۔

قارئین آپ خود فیصلہ فرمائیے یہ قرآن و حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

جگہ کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے

☆ وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا يَكُونُ

لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ، ۵:۲

اور ہم نے (حضرت) ابراہیم و (حضرت) اسماعیل علیہما السلام کی طرف حکم بھیجا ہے کہ میرے گھر کو خوب پاک رکھا کرو۔ طواف و اعکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے۔

☆ وَطَهْرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔

۲۲ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا۔

☆ عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

يصلى في سبعة مواطن في المذبلة او المجررة والماء

وقارعة الطريق وفي الحمام ومعانن الابل وفوق

ظهير بيت الله۔

حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سات جگہ

پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ کوڑے کرکٹ کی جگہ میں، جانور ذبح کرنے کی جگہ

قبرستان میں، راستہ چلنے کی جگہ میں، حمام میں، اونٹوں کے باڑے میں اور بیت اللہ

نہت پر۔

(ترمذی ج:۱)

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا صحابہ کرام اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے زک جازک جا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب نہ روکو۔ جانے دو چنانچہ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ مسجد میں پیشاب پاخانہ کے لئے نہیں ہوتیں، یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لئے ہیں، یا ایسا ہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے ایک شخص کو حکم دیا وہ پانی کا ایک ڈول بھر کے لے آیا اور پیشاب کی جگہ بہا دیا۔

(مسلم بن ۱۳۸)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ نماز

بونے کے لئے جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں۔

چنانچہ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

”وطہارت مکان نماز واجب است شرط صحت

نیست“

نماز کی جگہ کا پاک ہونا واجب ہے نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط نہیں ہے۔

(بدورالاحوال)

ملاحظہ فرمائیے:

آیات کریمہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز کے لئے جگہ کا پاک

ضروری ہے۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ اگر جگہ پاک نہ ہوئی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔

مقلدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب نماز کے صحیح ہونے کے لئے جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں

جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نا پاک جگہ پر بھی نماز پڑھ لی تو نماز صحیح ہو جائے گی۔

قارئین کرام فیصلہ فرمائیں کہ یہ قرآن و حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

ستر کا ڈھانپنا نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے

☆ یَبْنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (۷:۱۳)

اے بنی آدم تم اپنی آرائش لے لو ہر نماز کے وقت

☆ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

تقبل صلوة الحائض الا بخمار،

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان عورت کی نماز

اور حسی کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔

(ترمذی ج:۱:۸۶، ابوداؤد ج:۱:۹۴)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

آیت کریمہ، حدیث مبارک اور اجماع امت کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ ستر ڈھانپنے نماز کے صحیح نہ ہونے کو ہم نہیں مانتے ستر کھلا رہنے کے باوجود نماز ہو جاتی ہے۔

چنانچہ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

”واما آنکہ نماز زن اگر چہ تنہا یا بازناں یا باشو

یاد دیگر محارم باشد بے ستر تمام عورت صحیح نیست پس

مسلم ست“

رہی یہ بات کہ عورت کی نماز اگر چہ وہ تنہا ہو یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہو یا شو

دوسرے محرموں کے ساتھ ہو تو پورے ستر کے ڈھانپنے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں

نواب نور الحسن خاں لکھتے ہیں:

”وازی نجا در یافتہ باشی کہ ہر کہ چیزی از عورت

در نماز نمایاں شد یا در جامۃ ناپاک نماز گزارد نمازش صحیح

ست“

یہیں سے تجھے معلوم ہوگا کہ نمازی کے ستر کا جو حصہ بھی نماز میں کھل جائے یا وہ ناپاک

کپڑوں میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے۔

ملاحظہ فرمائیے:

قرآن و حدیث اور اجماع امت سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ نماز پڑھنے والے کے

ستر ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر بلا عذر ستر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن غیر مقلدین کہہ رہے ہیں

نہیں صاحب ہم نہیں مانتے کہ بلا ستر نماز نہیں ہوتی۔ ستر ڈھانپنے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔

قارئین فیصلہ فرمائیں کہ یہ قرآن و حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھنا افضل ہے

☆ عن عبد الله بن مسعود قال ما رأيت النبي صلى الله

عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلوتين جمع بين

المغرب والعشاء (بجمع) وصلى الفجر قبل ميقاتها۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کبھی نہیں

دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز بھی بے وقت پڑھی ہو سوائے دو نمازوں یعنی مغرب اور

عشاء کے کہ ان کو آپ نے (مزدلفہ) میں اکٹھا پڑھا اور فجر کو وقت سے پہلے۔

(بخاری ۲۰۲۸)

☆ عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم

للاجر۔

حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے

ہوئے سنا کہ فجر کو خوب روشنی میں پڑھو کیونکہ اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔

(ترمذی ج: ۱: ۴۰)

☆ عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الانصار ان

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسفرتم بالصبح

فانه اعظم للاجر،

حضرت محمود بن لبید نے اپنی قوم کے کئی انصاریوں سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا روشن کرو گے تم فجر کو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔

آپ نے ایک دفعہ حج کے موقع پر مزدلفہ میں غلّس (اندھیرے) میں نماز پڑھی تو

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عام معمول کے وقت سے پہلے نماز پڑھنا ذکر فرمایا

آپ کا معمول غلّس میں نماز پڑھنے کا ہوتا تو کبھی بھی حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے مزدلفہ

غلّس میں نماز پڑھتے تو عام معمول کے وقت سے پہلے نماز پڑھنا نہ نقل فرماتے۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل، آپ کے تاکیدی حکم اور عام صحابہ کرام کے معمول کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ فجر کی نماز غلّس (اندھیرے) میں پڑھنا افضل ہے۔ چنانچہ پوس قریشی صاحب لکھتے ہیں:

”فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔“

(دستورالمتقی ۱۸۰)

غیر مقلدین کا ایک فتویٰ ملاحظہ فرمائیں:

”آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین ہمیشہ غلّس (اندھیرے) میں فجر کی نماز

پڑھتے رہے۔“

(فتاویٰ علماء حدیث ج ۲: ۱۵۵)

ملاحظہ فرمائیے:

احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز اجالے میں پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی یہی حکم دیتے تھے۔ کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھو کیونکہ یہ بڑے اجر کا باعث ہے اور صحابہ کرام آپ کے کہنے کے مطابق ہی عمل بھی کرتے تھے۔ لہذا فجر کی نماز اسفار ہی میں پڑھنا افضل ہونا چاہیے لیکن غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ نہیں صاحب فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا ہی افضل ہے۔

قارئین ذرا سوچئے کیا اللہ کے نبی اور صحابہ کے عمل کے خلاف کسی عمل میں افضلیت

ہو سکتی ہے؟

احناف حامی حدیث و سنت

ظہر کی نماز گرمیوں میں تاخیر سے اور سردیوں میں جلدی پڑھنی چاہیے

☆ عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلوة واذا كان البرد عجل

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز

گرمی میں ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے اور سردی میں جلد پڑھ لیتے تھے۔

(نسائی ج: ۱: ۵۸)

☆ عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم۔

حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی نماز ٹھنڈی کر

کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بھاپ (کی وجہ) سے ہوتی ہے۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے ساتھ تھے۔ مؤذن نے ظہر کی اذان دینے کا ارادہ کیا تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا ٹھنڈا کر۔ مؤذن نے دوبارہ اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس سے پھر

فرمایا ٹھنڈا کر حتیٰ کہ ہمیں ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا

گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ لہذا جب گرمی شدید ہو تو نماز کو

ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔

(بخاری ج: ۱: ۷۷، مسلم ج: ۱: ۲۲۳)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس معمول اور حکم کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ

نماز ہر حالت میں (گرمی سردی کے فرق کے بغیر) اول وقت میں پڑھنی افضل ہے چنانچہ۔

ثناء اللہ امر تسری صاحب لکھتے ہیں:

”نماز ہر حالت میں اول وقت پڑھنی افضل ہے۔“

(فتاویٰ ثنائیہ ج: ۱ ص: ۵۵۳)

ملاحظہ فرمائیے:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معمول ہے کہ آپ ظہر کی نماز سردیوں میں جلدی اور

گرمیوں میں تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ یہی آپ نے دوسروں کو حکم بھی دیا ہے لیکن غیر مقلدین کہہ

رہے ہیں کہ نہیں صاحب نماز اول وقت میں پڑھنی افضل ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

معمول اور آپ کے حکم کے خلاف پڑھی جانے والی کسی نماز میں افضلیت ہو سکتی ہے؟

قارئین فیصلہ فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معمول اور آپ کے حکم کے

خلاف کوئی عمل اپنانا یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احکام حامی حدیث و سنت

تین اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے

☆

عن عقبہ بن عامر الجہنی یقول ثلث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلی فیہن اوان نقبر فیہن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تصيف الشمس للغروب حتى تغرب۔

حضرت عقبہ بن عامر جہنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے تین اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی اور مردوں کو دفنانے سے بھی۔ ایک تو جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ دوسرے جس وقت کہ ٹھیک دوپہر ہو جب تک زوال نہ ہو جائے۔ تیسرے جس وقت سورج ڈوبنے لگے جب تک کہ پورا ڈوب نہ جائے۔

(مسلم ج: ۱، ص: ۲۷۶)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

اس صریح و صحیح مرفوع حدیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ تحیۃ المسجد ان تینوں اوقات میں اور مطلق نوافل جمعہ کے دن زوال کے وقت پڑھنے جائز ہیں۔

چنانچہ نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”ومنها تحیۃ المسجد..... وہی مشروعة فی جمع

الاقوات حتی فی الاوقات المنہی عن الصلوۃ فیہا“ الخ

انہیں میں سے تحیۃ المسجد بھی ہے اور یہ تمام اوقات میں جائز ہے۔ حتیٰ کہ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اُن میں بھی،

(نزل الابرار ج: ۱: ۱۲۷)

شاء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں:

”مگر زوال کے وقت جمعہ کے روز نفل وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔

(فتاویٰ ثنائیہ ج: ۱: ۱۳۳)

ملاحظہ فرمائیے:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ تین اوقات میں کوئی سی بھی نماز نہ پڑھنا۔

ان اوقات میں نماز جائز نہیں لیکن غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب نوافل پڑھ لینے چاہئیں وہ جائز ہیں۔

قارئین کرام فیصلہ فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک چیز کو منع کر دینے کے

بعد اس کے کرنے کا فتویٰ دینا یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

بلا قدر و نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا جائز نہیں

☆ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى:

بجاقت کرو سب نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی۔

☆ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا:

بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔

☆ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ:

پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔

☆ عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يصلى الصلوة لوقتها الا بجمع و عرفات۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز

وقت پر پڑھتے تھے سوائے مزدلفہ اور عرفات کے۔

(نسائی ج ۳: ۳۶)

☆ عن ابي قتادة (في حديث طويل) ان رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال اما انه ليس في النوم تفريط انما

التفريط على من لم يصل الصلوة حتى يجيئ وقت

الصلوة الاخرى۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

خبردار نیند میں کوڑا، تفريط نہیں ہے: تفريط اس شخص کی طرف سے ہے جو نماز نہ پڑھے،

حتی کہ دوسری نماز کا وقت آجائے۔

(مسلم ج ۱: ۲۳۹)

☆ عن ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیف انت اذا كانت علیک امراء یؤخرون الصلوة عن
وقتہا او یمیتون الصلوة عن وقتہا قال قلت فماتاً مرئی
قال صل الصلوة لوقتہا فان ادركتها معهم فصل فانها لک
نافلة۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ
(اے ابو ذر) تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ تمہارے حکمران ایسے ہوں گے جو نماز
کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے یا نماز کو مار کر پڑھیں گے۔ حضرت ابو ذر فرماتے
ہیں میں نے عرض کیا کہ پھر میرے لئے آپ کا کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا تم نماز کو
اس کے وقت پر پڑھ لینا، پھر اگر ان کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو پھر پڑھ لینا کہ وہ
تمہارے لئے نفل ہو جائیں گے۔

(مسلم ج: ۱: ۲۳۰)

☆ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من
جمع بین الصلوتین من غیر عذر فقد اتى باباً من
الکباثر۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جس نے
نے بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں
سے ایک دروازے میں داخل ہوا۔

(ترمذی ج: ۱: ۴۸، مستدرک حاکم ج: ۱: ۲۷۵)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

فت بال کھینے کے لئے جمع بین الصلواتین

قارئین کرام غیر مقلدین کے یہاں جمع بین الصلواتین کے لئے کسی عذر کی ضرورت دور ربی کھیل کو دور دنیاوی نوکری کی وجہ سے بھی جمع بین الصلواتین جائز ہے۔ ذیل میں امرتسری صاحب کے دو فتوے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

سوال: فی زمانہ کثرت سے رواج ہے کہ مسلم حصول انعام کے لئے مثلاً آپ شیلڈ فٹ یا کرتے ہیں اور کھیلنے کے باعث عصر و مغرب کی نماز ترک کر دیتے ہیں، پر قضا پڑھ لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے۔

(محمد مصطفیٰ)

جواب: نماز قضا کر کے پڑھنا بلا وجہ اچھا نہیں ہے۔ کھیلنے والوں کو چاہئے کہ پہلے افسروں تصفیہ کر لیں، کہ نماز کے وقت کھیل گود کو چھوڑ دیں گے وہ اگر نہ مانیں تو ظہر کے عصر ملا لیں، یا عصر کے ساتھ ظہر ملا کر جمع پڑھ لیں۔

(فتاویٰ ثنائیہ ج ۱: ۶۱)

نوکری کے لئے جمع بین الصلواتین:

سوال: نوکری کے باعث ظہر کے وقت ہمیشہ کی فرصت رہتی ہے اور عصر میں فرصت نہیں ملتی کیا ظہر کیساتھ عصر ملا کر پڑھنے کی اجازت ہے؟

جواب: واقعی اگر وقت عصر نہیں ملتا تب ظہر کے ساتھ عصر جمع کر لیا کریں۔

(فتاویٰ ثنائیہ ج ۱: ۶۲)

ملاحظہ فرمائیے:

یہ ہے غیر مقلدین کا قرآن و حدیث پر عمل، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، نماز کی محافظت ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر نماز اپنے وقت پر پڑھتے تھے، اسی کی صحابہ کرام کو تاکید فرماتے تھے۔ اور بلا عذر دو نمازوں کے اکٹھا پڑھنے کو آپ گناہ کبیرہ قرار دے رہے ہیں، اسی پر صحابہ کرام کا عمل ہے۔

لیکن:

غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، جمع بین الصلوٰتین بالکل جائز ہے۔ عذر و غیرہ کی قید کی بھی ضرورت نہیں، عذر ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ اگر کھیل کو اور دنیاوی نوکری کی مصروفیت ہو تب بھی جائز ہے۔

قارئین کرام فیصلہ فرمائیے کہ یہ قرآن و حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

اقامت کے کلمات دو دو دفعہ کہے جائیں

☆ عن ابی محذورۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ

الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ

اذان کے ۱۹ کلمات سکھائے اور اقامت کے ۷ کلمات۔

(ترمذی ج: ۱، ۴۸، نسائی ج: ۱، ۷۳، دارمی ج: ۱، ۲۱۷)

☆ عن ابی محذورۃ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة

الاذان "اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والاقامة سبع عشرة كلمة،

"اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہدان لا الہ

الا اللہ، اشہدان لا الہ الا اللہ، اشہدان محمد رسول

اللہ، اشہدان محمد رسول اللہ، حی الصلوٰۃ، حی

الصلوٰۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت

الصلوٰۃ، قد قامت الصلوٰۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا

اللہ"

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ اقامت اگر چاہئے۔ یہی افضل ہے، اور اذان و اقامت کی یہ صورت کہ اذان بغیر ترجیح کے ہو اور دوہری ہو اس کا حدیث میں نام و نشان نہیں ہے چنانچہ:

شاء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں:

”تکبیر کے ہر ایک کلمہ کو ایک ایک مرتبہ کہنا سوائے قد قامت الصلوٰۃ کے افضل ہے۔“
زید بن عبدالبر کے تلقین شدہ کلمات ایسے ہی منقول ہیں۔“

(فتاویٰ ثنائیہ ج 1)

محمد سلیمان کیلانی صاحب لکھتے ہیں:

”باقی رہی یہ تیسری صورت کہ اذان بغیر ترجیح کے ہو اور اقامت دوہری ہو تو اس سے اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ معلوم نہیں دوستوں نے اسے کہاں سے ایجاد کر لیا۔“

(حاشیہ صلوٰۃ النبی، مرتبہ خالد گر جاکھی)

ملاحظہ فرمائیے:

ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان بیچاروں کا مبلغ علم ہی اتنا ہے کہ انہیں احادیث نظر نہیں آتیں، یا پھر یہ ہے کہ ان احادیث کو دیکھ کر یہ لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں بہر حال جو بھی ہو فیصلہ قارئین کے سر ہے وہ فیصلہ فرمائیں کہ اتنی احادیث کے خلاف کسی عمل کو اپنی طرف سے افضل قرار دینا یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

مکبیر تحریر یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا تا سنت ہے

☆ عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه انه ابصر النبي صلى

الله عليه وسلم حين قام الى الصلوة رفع يديه حتى

كانتا بحيال منكبيه وحاذى بايها ميه اذنيه ثم كبر،

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام

کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھ موٹھوں

تک اٹھائے اور انگوٹھے کانوں کے برابر کئے پھر اللہ اکبر کہا۔

(ابوداؤد ج ۱: ۱۰۵)

☆ عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه انه راى النبي صلى

الله عليه وسلم اذا فتح الصلوة رفع يديه حتى

تكا داياها ما تحاذى شحمة اذنيه،

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے

تک اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی نو کے برابر ہو گئے۔

(نسائی ج ۱: ۱۰۲)

☆

عن وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

رفع يديه حين دخل في الصلوة كبر وصف همام حين

أذنيه۔

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام

کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا

(حدیث کے راوی ہمام کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (نماز شروع کر

وقت ہاتھ اٹھائے تو) کانوں تک اٹھائے۔

(مسلم ج: ۱ ص: ۲۳)

☆

عن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم كان اذا اكبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه

وفي رواية عنه حتى يحاذي بهما فروع اذنيه،

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے انہی سے ایک دوسری روایت

ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھاتے۔

(مسلم ج: ۱ ص: ۱۶۸)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

مذکورہ تمام احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھانے

چاہئیں۔

چنانچہ خالد گر جاسکی صاحب لکھتے ہیں:

”اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیے۔“

(صلاة النبى ۱۵۲)

امام خان نوشہروی لکھتے ہیں:

”تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک یا ذرا اور اوپر اٹھانا۔“

(الحدیث کے دس مسئلے ۲۸)

ملاحظہ فرمائیے:

احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ تکبیر تحریر کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے

چاہئیں۔ لیکن غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ کندھوں تک اٹھانے چاہئیں۔ اور عملاً وہ کندھوں تک ہی

اٹھاتے ہیں۔

کارین کرام فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

نماز میں دونوں ہاتھ نافی کے نیچے باندھنا مستنون ہے

☆

اخبرنا حجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلز

قال قالت كيف يضع قال يضع باطن كف يمينه

ظاهر كف شماله و يجعلهما اسفل من السرة،

حجاج بن حسان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مجلز سے سنا، یا ان سے پوچھا کہ نماز میں

کس طرح ہاتھ باندھے جائیں؟ انہوں نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر کے

دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کے حصہ پر رکھے اور دونوں ہاتھ نافی کے نیچے باندھے

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۱۰۷)

☆

عن ابراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلاة

تحت السرة،

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر نافی

نیچے رکھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۱۰۷)

☆

عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت النبي

صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة

تحت السرة۔

حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا

کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ

پر نافی کے نیچے رکھتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۱۰۷)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہئیں اور ٹاف کے نیچے ہاتھ باندھنا مناسب ہے اور ٹاف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔

چنانچہ یونس دہلوی صاحب لکھتے ہیں:

”دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے چوٹے پر رکھ کر سینہ پر ہاتھ باندھے۔“

(دستورالمتعمی ۹۷)

نواب وحیدالزمان لکھتے ہیں:

”ویضع الیمنی علی ایسری ثم یضعہما علی صدرورہ“

وہوالمختار۔“

اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے پھر دونوں کو سینہ پر رکھے یہی مختار مذہب ہے۔

(نزل الامرار ج: ۱ ص: ۷۳)

مولوی خالد گر جاہی لکھتے ہیں:

”مذکورہ طریقہ کے مطابق سینہ پر ہاتھ باندھنا ہی صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔“

زیر ٹاف ہاتھ باندھنا ویسے ہی نامناسب معلوم ہوتا ہے، نیز زیر ٹاف ہاتھ باندھنے کی دلیل بھی

کوئی نہیں۔“

(صلاة النبی ۱۵۷)

حکیم فیض عالم صاحب اس عمل پر استہزاء کرتے ہوئے یوں گویا فحشانی کرتے ہیں:

”یہاں ایک لطیفہ یاد آیا ہے کہ خلفاء بنی عباس میں سے ہارون کا ایک نماز میں آزار

بند کھل گیا اور اس نے سینے سے ہاتھ نیچے کر کے آزار بند سنبھال لیا، نماز سے فراغت کے بعد

مقلد یوں نے حیرانی سے ہارون الرشید کے اس فعل کو دیکھا، قاضی ابو یوسف صاحب نے فتویٰ دیا

کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی صحیح ہے۔

(اختلاف امت کا البیہ ۷۸)

ملاحظہ فرمائیے:

جو عمل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معمول ہے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ

الصلوٰۃ والسلام کی سنت قرار دے رہے ہیں جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ اخلاق نبوت میں سے شمار

کر رہے ہیں جس پر صحابہ و تابعین اور اکثر ائمہ کا عمل ہے وہ تو غیر مقلدین کے یہاں نامناسب عمل

ہے، اس کی انہیں کوئی دلیل بھی نہیں ملتی اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی نہیں چوکتے۔

احناف حامی حدیث و سنت

نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہئے

☆ عن انس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابي بكر و عمرو و عثمان رضی الله عنهم فلم اسمع

احدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم،

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔

(نسائی ج: ۱: ۱۰۵)

☆ عن انس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

و ابي بكر و عمرو و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔

(مسلم ج: ۱: ۱۷۲)

☆ عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بكر و عمرو

كانوا يفتحون الصلوة بالحمد لله رب العالمين۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نماز الحمد لله رب العالمين سے شروع کرتے تھے۔

(بخاری ج: ۱: ۱۰۳)

حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سنا تو مجھ سے فرمایا۔ بیٹا یہ بدعت ہے اور بدعت سے بچو، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کے نزدیک اسلام میں بدعت ایجاد کرنے سے زیادہ کوئی چیز مبغوض ہو اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام، حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ (سب) کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ لیکن ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ کہتے ہوئے نہیں سنا، لہذا تم بھی نہ کہو، جب تم نماز پڑھو تو کہو الحمد للہ رب العالمین۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفلؓ کی حدیث حسن ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اکثر اہل علم صحابہ کا عمل اسی پر ہے جن میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور دیگر صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین بھی ہیں۔ حضرت سفیان ثوریؒ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، اسحاق بن راہویہؒ کا بھی یہی قول ہے۔ یہ لوگ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو صحیح نہیں سمجھتے، البتہ ان کا کہنا ہے کہ نمازی بسم اللہ اپنے جی میں کہہ لے۔

(ترمذی ج 1: 54)

☆ عن ابراهيم قال جبر الامام بسم الله الرحمن الرحيم بدعة۔

حضرت ابراہیم نخعیؒ فرماتے ہیں کہ امام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھنا بدعت ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 1 ص 311)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ جہری نماز میں بسم اللہ پکار

کر پڑھنا بہتر ہے۔

چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں:

”والحاصل ان الحق ثبوت قراءتها وانها آية من كل

سورة وانها تقرأ في الصلوة جهرافي الجهرية وسرافي السرية“۔

(الروضۃ الندیۃ ج: ۱۰: ۱۰۱)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق بات یہی ہے کہ بسم اللہ کا نماز میں پڑھنا ثابت ہے اور یہ ہر

سورۃ کی ایک آیت ہے اور اسے جہری نمازوں میں جبراً (اوپرچی آواز سے) پڑھا جائے اور سری

نمازوں میں سرا (آہستہ)۔

ملاحظہ فرمائیے:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفاء راشدین بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں عام

صحابہ کرام اور تابعین کا معمول بھی یہی ہے۔ یہ حضرات بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں اوپرچی آواز سے

پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ اسے گنواروں کا فعل اور بدعت قرار دیتے ہیں، لیکن غیر مقلدین کہہ

رہے ہیں کہ نہیں صاحب بسم اللہ اوپرچی آواز سے پڑھنا بہتر اور حق ہے۔ قارئین کرام غور فرمائیے،

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل کے خلاف کسی عمل بدعت کو بہتر اور حق کہنا یہ عمل بالحدیث ہے یا

حدیث سے بغاوت؟ بھلا جس عمل کو صحابہ اور تابعین بدعت قرار دیں وہ بہتر اور حق ہو سکتا ہے؟

نوٹ:

غیر مقلدین کا بسم اللہ پڑھنے کے متعلق جہری دوسری نماز کا فرق کرنا کہ جہری میں جہراً

پڑھا جائے اور سری میں بالسر یہ خود ساختہ فرق ہے۔ کسی حدیث میں یہ فرق موجود نہیں ہے۔

احناف حامی حدیث و سنت

امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔

☆

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم

ہو۔

عن يسير بن جابر قال صلى ابن مسعود فسمع

☆

فاسنا يقرؤن مع الامام فلما انصرف قال اما ان لكم ان

تفقهوا اما ان لكم ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا

له وانصتوا كما امركم الله،

حضرت یسیر بن جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی اور چند

آدمیوں کو امام کے ساتھ قرأت کرتے سنا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا

کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم سمجھ اور عقل سے کام لو۔ جب قرآن کریم کی قرأت ہوتی

ہو تو تم اس کی طرف توجہ کرو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔

(تفسیر طبری ج ۹: ۱۱۰)

عن ابن عباس في قوله تعالى واذا قرئ القرآن

☆

فاستمعوا له وانصتوا يعني في الصلوة المفروضة۔

حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد واذا قرئ القرآن الآیہ کے

متعلق مروی ہے کہ یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(کتاب القراءة للمبہمۃ ۸۸)

☆ عن ابى موسى الاشعري قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فين لنا سنتنا وعلما صلوتنا فقال اذا صليتم فاقبموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا اكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی اور نماز کا طریقہ بتلایا اور یہ فرمایا کہ نماز پڑھنے سے قبل اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے ایک تمہارا امام بنے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔
(مسلم ج: ۱: ۱۷۳)

☆ عن ابى موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا فاذا كان عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم التشهد۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو پھر جب قعدہ میں بیٹھے تو تم میں سے ایک کا پہلا ذکر تشہد ہونا چاہیے۔

(ابن ماجہ ۶۱)

☆ عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا اكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے سوجب وہ تکبیر کہے تو تم بھی اور جب وہ قرأت کرے، تو تم خاموش رہو اور جب وہ سمع اللہ و حمدہ کہے تو تم اللھم ربنا لک الحمد کہو۔

(نسائی ج ۱)

☆ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامام لیؤتم بہ فاذا اکبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے سوجب وہ تکبیر کہے تو تم بھی اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔

(نسائی ج ۱)

☆ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ واذا اکبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب (علیہم) ولا الضالین فقولوا آمین۔

(المحدث)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے سوجب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔

(ابن ماجہ ۶۱)

☆ ثنا سفین بن عیینة عن الزهري عن ابن اکیمة قال سمعت ابا هريرة يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة نطن انها الصبح فقال هل قرأتمکم من احد قال رجل انا قال انى اقول ما لى انازع القرآن۔

ابن اکیمة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ ہمارا خیال ہے وہ صبح کی نماز تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے قرأت کی ہے۔ ایک صاحب بولے میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی کہوں کہ میرے ساتھ قرآن کریم کی قرأت میں متازعت (کشش) کیوں کی جا رہی ہے۔

(ابن ماجہ ۶۱)

☆ عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى خلف الامام فان قرأه الامام له قرأة۔ حضرت جابر عن عبد اللہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔

(موطا امام محمد ۹۵)

☆ عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من كان له امام فقراءه له قرأة۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے امام کی اقتداء کی تو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۱ ص: ۳۷۷)

☆

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرأه الامام له قراءة -
حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
امام کی اقتداء کی تو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔

(کتاب القراءة للشیخ)

☆

عن ابی هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان له امام فقرأه الامام له قراءة -
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے امام کی اقتداء کی تو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔

(کتاب القراءة للشیخ)

☆

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كان له امام فان قرأه الامام له قراءة -
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے لئے امام ہو تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔

(کتاب القراءة للشیخ)

☆

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
تكفيك قراءة الامام خافت اوجهر -
حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ آپ نے فرمایا تجھے امام کی قرأت کافی ہے۔ چاہے وہ آہستہ آواز سے قرأت کرے
یا اونچی آواز سے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ آپ نے فرمایا تجھے امام کی قرأت کافی ہے۔ چاہے وہ آہستہ آواز سے قرأت کرے
یا اونچی آواز سے۔

(دار قطنی ج ۱: ۳۱)

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من كان له امام فقرأه الامام له قراءة-

(كتاب القراءة للمصنف ١٥٣)

عن انس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
باصحابه ثم اقبل بوجهه فقال اقرأون والامام يقرأ
فسكتوا فسألهم ثلثا فقالوا انا لنفعل قال فلا تفعلوا-

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی (نماز سے فارغ ہو کر) آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم قرأت کرتے ہو جبکہ امام قرأت کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام چپ رہے، آپ نے تین بار یہی سوال کیا تو صحابہ کرام بولے کہ ہم ایسا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایسے مت کرو۔

(طحاوی ج: ١: ١٥٠ و کتاب القراءة للمصنف ١٥١)

عن يحيى بن عبد الله بن سالم العمري ويزيد بن ابي
عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان
منكم له امام فائتم به فلا يقرآن معه فان قراءته له قراءة-

یحیی بن عبد اللہ اور یزید بن ابی عیاض سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے لئے امام ہو اور وہ اس امام کی اقتداء کرے تو مقتدی اس کے ساتھ قرأت نہ کرے کیونکہ امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔

(كتاب القراءة للمصنف ١٨٣)

عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل

الاوراء الامام-

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یروی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے نماز کی کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ کی نماز نہیں ہوئی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔

(طحاوی ج: ۱، ص: ۱۳۹، مصنف عبدالرزاق)

☆

عن ابی ہریرۃ (رضی اللہ عنہ) قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاة لا یقرأ فیہا بام فہی خداج الا صلاة خلف امام۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہوتی ہے۔ سوائے اس نماز کے پیچھے پڑھی جائے۔

(کتاب القراءۃ للشیخ)

☆

عن الشعبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا قراءۃ خلف الامام۔

امام شعبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کی قراءت جائز نہیں۔

(دارقطنی ج: ۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ مرض وفات ہوئے تو آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت عائشہ بولیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا دیں۔ آپ نے فرمایا بلا دو حضرت بولیں یا رسول اللہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لیں، آپ نے فرمایا بلا لو۔ حضرت ام بولیں یا رسول اللہ عباس کو بھی بلا لیں آپ نے فرمایا ہاں، جب یہ سب حضرات ہو گئے تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھا اور خاموش رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت آپ کے پاس سے اٹھ جاؤ پھر حضرت بلال نے آکر آپ کو نماز کی اطلاع

کی، آپ نے فرمایا ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہؓ بولیں یا رسول اللہ ابو بکرؓ بہت نرم دل ہیں۔ جب آپ کو نہیں دیکھیں گے تو رونے لگیں گے اور لوگ بھی رو دیں گے۔ اگر عمرؓ کو نماز پڑھانے کا حکم دیں تو اچھا ہو، لیکن حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف میں کچھ تخفیف محسوس کی تو آپ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے پاؤں سے زمین میں لکیریں پڑ رہی تھیں، جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو (حضرت ابو بکرؓ کو متنبہ کرنے کے لئے) سبحان اللہ کہا، حضرت ابو بکرؓ پیچھے ہٹے لگے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ ہی ٹھہرو، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچے اور آپ کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکرؓ گھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقتداء کرنے لگے اور لوگ حضرت ابو بکرؓ کی اقتداء کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراۃ اسی جگہ سے شروع فرمائی جس جگہ حضرت ابو بکرؓ پہنچے تھے۔

(ابن ماجہ ۸۸، ملحدی ج ۱: ۲۷۶، مسند احمد ج ۱: ۲۳۲، دارقطنی ج ۱: ۳۹۸)

☆ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال القاری غیر المنضوب علیہم ولا الضالین فقال من خلفہ آمین فوافق قوله قول اهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاری غیر المنضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مقتدی آمین کہتا ہے اور مقتدی کا قول اہل آسمان کے قول کے موافق ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(مسلم ج ۱: ۱۷۶)

☆

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا
امن القاری فامنوا فان الملائکة تؤمن فمن وافق تأمین
تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جب
قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں پس جس کی آمین
ملائکہ کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔
(بخاری ج ۲: ۹۴۷، نسائی ج ۱: ۱۰۷، ابن ماجہ ۶۱)

☆

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا
آمین فان الملائکة تقول آمین وان الامام يقول آمین
فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب
امام غیر المغضوب علیہم ولا للضالین کہے تو تم آمین کہو کیونکہ فرشتے
بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے سو جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق
ہو جاتی ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

(نسائی ج ۱: ۱۰۷، دارمی ج ۱: ۲۲۸، مستدرک ج ۲: ۲۳۳)

☆

عن الحسن عن ابی بکرۃ انه انتہی الی النبی صلی
اللہ علیہ وسلم وهو راكع فركع قبل ان یصل الی
الصف فقال زادك اللہ حرصا ولا تعد،

حضرت حسن بھریؓ حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب نبی
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس (مسجد نبوی علیٰ صحابہ الصلوٰۃ والسلام میں) پہنچے تو آپ
رکوع میں جا چکے تھے۔ چنانچہ یہ صف میں طے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے (اور

آہستہ آہستہ چلتے چلتے صف میں مل گئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے نیکی کرنے پر اور حریص کرے پھر ایسا نہ کرنا۔

(بخاری ج: ۱: ۱۰۸)

☆ عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلوة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العلمين۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع فرماتے تھے اور قرأت الحمد اللہ رب العلمین سے۔

(ابوداؤد ج: ۱: ۱۱۳)

☆ عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً قال سفيان لمن يصلي وحده۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز جائز نہیں جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید کچھ اور نہ پڑھے۔ حضرت سفیان بن عیینہؒ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔

(ابوداؤد ج: ۱: ۱۱۹)

☆ قال الامام الترمذی واما احمد بن حنبل فقال معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده۔

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کہ اس کی نماز جائز نہیں جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرأت نہ کرے کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔

(ترمذی ج: ۱: ۷۱)

احناف حامی حدیث و سنت

خلفاء راشدین امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع کرتے تھے

☆

عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن

قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القر

خلف الامام قال واخبرني اشياخنا ان عليا قال

قرأ خلف الامام فلا صلاة له قال واخبرني موسى

عقبة ان رسول الله سلى الله عليه وسلم و ابوبكر و عمر

عثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام۔

امام عبد الرزاق عبد الرحمن بن زید سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع فرمایا ہے

عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں۔ مجھے بہت سے مشائخ نے خبر دی ہے کہ حضرت علی

ارشاد ہے کہ جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس کی نماز نہیں ہوگی اور موسیٰ بن عمر

نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت

عثمان امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع فرماتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق ج ۲: ۳۹)

حضرت عمر فاروق کا فرمان:

☆

عن نافع و انس بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب

تكفيك قراءة الامام۔

امام نافع اور انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں امام کی قرأت

کافی ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۲۷۶)

☆ عن القاسم بن محمد قال قال عمر بن الخطاب رضي

الله عنه لا يقرأ خلف الامام جهرا ولم يجهر-

حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے امام جہر کرے یا نہ کرے۔

(کتاب القراءة للبیہقی ج ۱۸۳)

☆ اخبرنا محمد بن عجلان ان عمر بن الخطاب قال ليت

في فم الذي يقرأ خلف الامام حجرا-

محمد بن عجلانؒ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے فرمایا کہ کاش کہ جو شخص امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے اس کے منہ میں پتھر ڈال دیئے جائیں۔

(موطا امام محمدؒ ج ۹۸)

حضرت علیؓ کا فرمان:

☆ عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قال علي بن ابي

طالب رضي الله عنه من قرأ خلف الامام فقد اخطأ

الفطرة-

حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ ”جس نے امام

کے پیچھے قرأت کی اس نے فطرت کو کھو دیا۔“

(دارقطنی ج ۱: ۳۳۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۳۷۶)

☆ عن دائود بن قليس عن محمد بن عجلان قال قال

علي من قرأ مع الامام فليس على الفطرة-

محمد بن عجلانؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ قرأت کی وہ

فطرة (اسلام کے طریقہ) پر نہیں ہے۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۲: ۱۳۸، طحاوی ج ۱: ۱۵۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول و عمل:

☆ عن ابی وائل قال جاء رجل الى عبد الله (بن مسعود) فقال يا ابا عبد الرحمن اقرأ خلف الامام؟ قال انظر للقرآن فان في الصلوة شغلا وسيكفيك ذلك الامام۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا میں امام کے پیچھے قرأت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا (قرأت) وقت خاموش رہو کیونکہ نماز میں امام قرأت میں مشغول ہے اور تمہیں امام کی قرأت کافی ہے۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۲: ۱۳۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۶۷)

کتاب القرأت للہبیتی ۱۳۶، موطا امام محمد

☆ عن علقمة بن قیس ان عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه في الاوليين ولا في الاخرين۔

حضرت علقمہ بن قیس سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود امام کے پیچھے قرآن نہیں کیا کرتے تھے نہ جہری نمازوں میں نہ سری نمازوں میں نہ پہلی رکعتوں میں آخری رکعتوں میں۔

(موطا امام محمد ۹۶)

☆ عن علقمة عن ابی مسعود قال ليت الذي يقرأ خلف الامام ملثي فوه ترابا۔

حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کاش کہ امام کے پیچھے قرأت کرنے والے کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے۔

(طحاوی ج ۱: ۱۵۰، مصنف عبدالرزاق ج ۲: ۱۳۸)

حضرت عبداللہ بن عمر کا قول و عمل:

☆ مالک عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الامام

امام مالکؒ بواسطہ نافعؒ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا کہ کیا کوئی امام کے پیچھے قرأت کر سکتا ہے تو آپ فرماتے کہ تم میں سے کوئی نب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرأت ہی کافی ہے اور جب اکیلا نماز پڑھے تو قرأت کر لیا کرے۔ نافعؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے قرأت نہیں کیا کرتے تھے۔

(موطا امام مالک ۶۸)

☆ عن القاسم بن محمد قال كان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام جهرا ولم يجهر، الحديث۔

قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے قرأت نہیں کیا کرتے تھے۔ خواہ امام اونچی آواز سے قرأت کرے یا نہ کرے۔

(کتاب القراءة للمصنفی ۱۸۴)

☆ عن عبيد الله بن مقسم انه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالوا لا تقرأ، واخلف الامام في شيء من الصلوة۔

عبداللہ بن مقسمؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ، زید بن ثابتؓ اور جابر بن عبداللہؓ سے امام کے پیچھے قرأت کے بارے میں سوال کیا تو ان حضرات نے فرمایا کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے قرأت نہ کرو۔

(طحاوی ج: ۱، ۱۵۰)

حضرت زید بن ثابتؓ کا قول و عمل:

☆ عن عطاء بن یسار انه اخبره انه سال زيد بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء۔

حضرت عطاء بن یسارؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابتؓ سے امام کے ساتھ قرأت کرنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا امام کے ساتھ کسی نماز میں کوئی قرأت نہیں کی جاسکتی۔

(مسلم ج: ۱، ۲۱۵، نسائی ج: ۱، ۱۱۱)

☆ عن زيد بن ثابت قال لا يقرأ خلف الامام ان جهر ولا ان خافت۔

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے نہ جب کہ امام جہر سے قرأت کرے اور نہ جب کہ وہ آہستہ آواز سے قرأت کرے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۱، ۳۷۶)

☆ عن ابن زكوان عن زيد بن ثابت و ابن عمر كانا لا يقرآن خلف الامام۔

ابن زکوانؓ سے مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ دونوں امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے تھے۔

(مصنف عبدالرزاق ج: ۲، ۱۳۰)

☆ عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت يحدثه عن جده
انه قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له۔

حضرت زید بن ثابتؓ کے پوتے موسیٰ بن سعدؓ سے مروی ہے کہ ان کے دادا حضرت
زید بن ثابتؓ نے فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس کی نماز نہیں ہوئی۔

(موطا امام محمد ۱۰۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۳۷۶،

مصنف عبدالرزاق ج ۲: ۱۳۷)

☆ عن موسى بن سعد عن ابن زيد بن ثابت عن ابيه زيد
بن ثابت قال من قرأ وراء الامام فلا صلاة له۔

حضرت موسیٰ بن سعدؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد حضرت زید بن ثابتؓ سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس کی نماز نہیں
ہوئی۔

(کتاب القراءة للہبیتی ۱۸۵)

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا فرمان:

☆ اخبرنا داود بن قيس الفراء المدني اخبرني بعض ولد
سعد بن ابي وقاص انه ذكر له ان سعدا قال وددت ان
الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمرة۔

امام محمدؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی داؤد بن قیسؓ نے کہ حضرت سعد بن ابی

وقاصؓ کے کسی بیٹے نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے فرمایا میرا جی

چاہتا ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔

(موطا امام محمد ۹۸)

حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان:

☆ عن ابی حمزة قال قالت لا بن عباس اقرأ والامام بيدي فقال لا۔

ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کیا میں اس صورت میں قرأت کر سکتا ہوں کہ امام میرے آگے ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔

(طحاوی ج: ۱۵۱)

☆ عن عكرمة عن ابن عباس انه قيل له ان ناسا يقرءون في الظهر والعصر فقال لو كان لي عليهم سيل لقلعت السننهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فكانت قراءته لنا قراءه وسكوتنا لنا سكوتنا۔

حضرت عکرمہؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ظہر و عصر میں قرأت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میرا ان پر بس چلے تو میں ان کی زبانیں کھینچ لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی سو آپ کی قرأت ہماری قرأت تھی اور آپ کا سکوت ہمارا سکوت تھا۔

(طحاوی ج: ۱۴۱)

حضرت جابر بن عبداللہ کا قول و عمل:

☆ مالك عن ابی نعیم وهب بن کيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراء الامام۔

حضرت امام مالک ابو نعیم وہب بن کیسان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں۔
حضرت جابر بن عبد اللہ گو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس
سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی الایہ کہ امام کے پیچھے ہو۔
(موطا امام مالک ۶۶، ترمذی ج ۱: ۱۱۱)

☆ عن جابر قال لا یقرأ خلف الامام۔

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۷۶)

☆ عن عبید اللہ بن مقسم قال سألت جابر بن عبد اللہ

انقرأ خلف الامام فی الظهر والعصر شیاً فقال لا۔

حضرت عبید اللہ بن مقسم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ کیا آ

ظہر وعصر میں امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۲: ۶۷)

حضرت محمد بن سیرین ۱۰۰ کا فرمان:

☆ عن محمد قال لا اعلم القراءۃ خلف الامام من السنۃ

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے قرأت کرنے کو سنت

جانتا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۷۶)

حضرت امام ابو حنیفہ ۱۵۰ کا مسلک:

☆ قال محمد لا قراءۃ خلف الامام فیما جهر فیہ ولا ف

لم یجهر و بذالك جاءت عامة الآثار وهو قول ا

حنیفة۔

امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت جائز نہیں نہ جہری نمازوں میں نہ سرری نمازوں میں اس کی تائید میں عام آثار وارد ہوئے ہیں اور یہی حضرت امام ابوحنیفہؒ کا قول ہے۔

(موطا امام محمد ۹۴)

حضرت امام محمدؒ (۱۸۹ھ) کا مسلک:

☆ قال محمد وبہ ناخذ لانری القراءة خلف الامام فی شیئ من الصلوة یجهر فیہ اولا یجهر۔

امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہی ہمارا مسلک ہے، ہم کسی بھی نماز میں خواہ جہری ہو یا سرری امام کے پیچھے قرأت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔

(کتاب الآثار بروایت الامام محمدؒ ۲۳)

حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ)، امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ)،

امام زہریؒ (۱۲۴ھ)، سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ)،

سفیان بن عیینہؒ (۱۹۸ھ) اور اسحاق بن راہویہؒ (۲۳۸ھ) کا مسلک:

☆ وجملة ذلك ان القراءة غیر واجبة علی الماموم فیما جهر به الامام ولا فیما اسر به نص علیہ احمد فی رواية الجماعة وبذلك قال الزهري والثوري وابن عيينة ومالك وابو حنيفة واسحق۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقتدی پر قرأت واجب نہیں ہے نہ جہری نمازوں میں نہ سرری میں..... امام احمدؒ نے صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے جیسا کہ علماء کی ایک جماعت نے ان سے نقل کیا ہے، اور امام زہریؒ، سفیان ثوریؒ، سفیان بن عیینہؒ، امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ اور اسحاق ابن راہویہؒ بھی اسی کے قائل ہیں۔

(معنی ابن قدامة ج: ۱ ص: ۵۶۶)

حضرت امام شافعی (م ۲۰۴ھ) کا مسلک:

☆ نحن نقول كل صلاة صليت خلف الامام والامام يقرأ
قراءة لا يسمع فيها قراءتها.

اور ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے اور امام ایسی قرأت کر رہا ہو
جو سنی نہ جاتی ہو تو مقتدی ایسی نماز میں قرأت کرنے۔

(کتاب الام ج ۷: ۱۶۶)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (م ۵۶۱ھ) کا فرمان:

☆ وكذلك ان كان مأموماً ينصت الى قراءة الامام
ويفهمها.

ایسے ہی اگر نماز پڑھنے والا مقتدی ہے تو اس کو امام کی قرأت کے لئے خاموش رہنا
چاہیے اور اس کی قرأت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

(غنیۃ الطالبین مترجم ۵۹۲)

مذکورہ بالا آیات کریمہ، احادیث و آثار اور ائمہ مجتہدین کے اقوال سے مندرجہ ذیل

امور ثابت ہوئے:

۱۔ مرض الوقات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جس میں آپ نے سورۃ
فاتحہ نہیں پڑھی کیونکہ پہلے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ تشریف لائے
تو حضرت ابو بکر مکتبہ کافر بیضہ انجام دینے لگے اور آپ امامت کرانے لگے اور آپ
نے قرأت اس کے آگے سے شروع کی جہاں تک حضرت ابو بکر چلے گئے تھے اور مندا احمد
کی روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کے وقت حضرت ابو
بکر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ شروع کر چکے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے یہ نماز بغیر فاتحہ کے پڑھائی اور ہے بھی یہ آپ کا آخری فعل جس کا کوئی نسخ

بھی نہیں، چودہ صدیاں گزر گئیں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
یہ نماز نہیں ہوئی (العیاذ باللہ)۔ لہذا ثابت ہوا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی
اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول اور فعل دونوں اس کی دلیل ہوئے۔

۲

آئین کی حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امام کو قاری (قرأت کرنے والا)
فرمایا نیز آپ نے حکم دیا کہ جب امام غیر المنضوب علیہم و
الضالین کہے تو تم آئین کہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرأت فقط امام کا کام ہے
مقتدی کا نہیں، ورنہ تو آپ اول تو سب کو قاری قرار دیتے، دوسرے
..... مقتدیوں سے کہتے کہ جب تم ولا الضالین کہہ چکو تو آئین کہو مگر آپ
نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آئین کہو۔

نیز احادیث آئین سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان اور فرشتے آئین میں موافقت کرنے
کا مفہوم بالکل ظاہر و باہر ہے کہ ملائکہ کی آئین امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرأت کے
بغیر ہی واقع ہوتی ہے۔ (کیونکہ قرأت قرآن خاصہ انسان ہے۔ کسی اور کو یہ حاصل
نہیں)۔ پس چاہئے کہ مقتدیوں کی آئین بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرأت کے بغیر
ہی ہوتا کہ مقتدیوں اور فرشتوں کی آئین میں توافق ہو سکے، اس بات سے بھی ثابت
ہوا کہ قرأت فقط امام کا کام ہے مقتدی کا نہیں۔ علیہ

۳

حضرت بکرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو رکوع
میں پالے تو اس کی وہ رکعت ہو جائے گی، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رکوع میں پایا تو رکعت پانے کے لئے جلدی سے رکوع میں چلے
گئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر
کو ڈعادی اور فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اسے
لوثاؤ، امام کو رکوع میں پالنے سے رکعت کا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی پر

سورۃ فاتحہ فرض نہیں، اگر فرض ہوتی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابو بکرؓ کو ضرور نماز لوٹانے کا حکم دیتے کیونکہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے تھے، لیکن کسی حدیث سے بھی آپ کا انہیں نماز لوٹانے کا حکم دینا ثابت نہیں۔

حضرت انسؓ اور حضرت عائشہؓ کی احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ بھی قرأت میں شامل ہے کیونکہ دونوں ہی یہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قرأت کی ابتداء سورۃ فاتحہ سے کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ قرأت میں شامل ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو مقتدی کو قرأت سے منع کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور نہ ہی کوئی دوسری سورۃ۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کیونکہ ان میں واذا اقرأ فانصتوا کے بعد واذا قال غیر المنضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ جن سے صاف ظاہر ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی قرأت میں شامل ہے اور وہ صرف امام کا وظیفہ ہے۔ مقتدی کا نہیں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب امام غیر المنضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو ظاہر ہے کہ غیر المنضوب علیہم ولا الضالین سورۃ فاتحہ ہی کا حصہ ہے اور آپ نے اسے امام کے پڑھنے کے ساتھ خاص کیا ہے۔ لہذا غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ ان احادیث میں قرأت سے روکا گیا ہے سورۃ فاتحہ سے نہیں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ سورۃ فاتحہ بھی قرأت میں شامل ہے اور سورۃ فاتحہ کی ممانعت اولاً وبالذات ہے اور دوسری سورتوں کی ممانعت ثانیاً اور بالتبع۔

۵۔ حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث لا صلوة لمن لم یقرأ بقدر
الکتاب فصاعداً۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لئے ہے۔

اول یہ کہ اس حدیث میں فصاعداً کا لفظ موجود ہے جس کا مطلب ہے کچھ مزید، اس
کے ہوتے ہوئے حدیث کا ترجمہ ہوگا کہ اس شخص کی نماز جائز نہیں جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید
نہ کرے اور اس پر اجماع ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید قرأت منفرد ہی کرتا ہے مقتدی نہیں۔
دوم یہ کہ اس حدیث کے ترجمہ پر غور کیا جائے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ "اس شخص
نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ کیساتھ قرأت نہ کرے"۔ یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورۃ نہ پڑھ
اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ منفرد کیلئے ہے مقتدی کے لئے نہیں کیونکہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری
سورۃ پڑھنا منفرد کا کام ہے مقتدی کا نہیں۔

ائمہ مجتہدین حضرت امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ میں
کوئی امام بھی جبری نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا، فرض و واجب سمجھنا تو یہ
دور کی بات ہے۔ نیز ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام بھی اس کا قائل نہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ
پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

قرآن و حدیث، آثار صحابہ و تابعین اور اقوال ائمہ مجتہدین کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ مقتدی پر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے چاہے امام اونچی آواز سے قرأت کر رہا ہو یا آہستہ آواز سے اور جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، کالعدم ہے بیکار ہے باطل ہے۔

چنانچہ میاں نذیر حسین صاحب کے برادر زادے اور شاگرد مولوی عبداللطیف صاحب لکھتے ہیں:

”فاتحہ خلف الامام پڑھنا فرض ہے بغیر فاتحہ پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔“

(فتاویٰ نذیریہ ج: ۱ ص: ۳۹۸)

نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں:

”بعدہ سورۃ فاتحہ بخواند اگرچہ درپس امام باشد زیرا کہ بے فاتحہ نہ نماز صحیح ست و نہ

اور اک رکعت معتدبہ“

اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے اگرچہ امام کے پیچھے ہو کیونکہ فاتحہ کے بغیر نہ نماز صحیح ہے

اور نہ رکعت کا پانا معتبر ہے۔

(عرف الجادی ص: ۲۶)

نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”ومن فرائضها قراءة الفاتحة لقادر عليها في كل ركعة

من الثنائية والرابعة في الفرائض والنوافل للامام

والماموم والمنفرد والمسبوق۔“

نماز کے فرائض میں سے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے اس شخص کے لئے جو اس کے پڑھنے کا درہو دو رکعت والی اور چار رکعت والی نمازوں کی ہر رکعت میں خواہ فرض نماز نفل، امام مقتدی منفرد اور مسبوق ہر ایک کے لئے۔

(نزل الامار ج: 1: 5)

مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں:

”میں سورۃ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنے کو ضروری جانتا ہوں از روئے قرآن وحدیث میری تحقیق ہے کہ فاتحہ کے بغیر منفرد ہو یا مقتدی کسی کی نماز نہیں ہوتی۔“

(فتاویٰ ثنائیہ ج: 1: 55)

کراچی سے ایک رسالہ ”فصل الخطاب فی قرائۃ فاتحہ الكتاب“ شائع ہوا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ”جو شخص امام کے پیچھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، کامل نہیں ہے، بیکار ہے، باطل ہے۔“

(فصل الخطاب)

ملاحظہ فرمائیے:

قرآن وحدیث آثار صحابہ و تابعین وغیرہ سے تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت کرنی ہی نہیں چاہیے خاموش رہ کر امام کی قرأت کی طرف کان لگانے چاہئیں لیکن غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ مقتدی پر سورۃ فاتحہ کی قرأت فرض و واجب ہے اگر وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ نماز جو آپ نے بغیر سورۃ فاتحہ کی قرأت کے پڑھائی تھی وہ بھی نہ ہوئی، نیز خلفاء راشدین ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اوزان کے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں

قبعین جن میں حضرت داتا گلی جہویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکئی، بابا فرید گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ باقی باللہ، مجدد الف ثانی، حضرت طاہر بندگی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہم اللہ جیسے سینکڑوں اولیاء کرام ہیں ان سب کی نماز بھی نہ ہوئی کیونکہ یہ حضرات بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ تو خود پڑھتے تھے اور نہ ہی پڑھنے کو صحیح سمجھتے تھے۔

قارئین کرام غور فرمائیے کہ غیر مقلدین اپنے اس نظریہ سے کس کس کی نماز باطل قرار دے رہے ہیں اور جب ان کی نماز ہی نہ ہوئی تو یہ تارک نماز ہوئے اور تارک نماز غیر مقلدین کے نزدیک چونکہ مسلمان نہیں، اس لئے یہ سب حضرات بھی مسلمان نہ ہوں گے العیاذ باللہ۔ غیر مقلدین کی یہ اتنی بڑی جرأت و جسارت ہے جو غیر مقلدین کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ قارئین آپ نے غیر مقلدین کے فتوے ملاحظہ فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے فتوے پر بھی ایک نظر ڈالتے چلئے۔ دیکھئے امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں۔

فتویٰ امام احمد بن حنبل:

”اہل اسلام میں سے کسی کو بھی ہم نے یہ کہتے نہیں سنا کہ جس شخص نے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جس نے قرأت کی ہو اور اس کے مقتدی نے قرأت نہ کی ہو تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوئی، یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام، آپ کے صحابہ، تابعین، اور تبع تابعین ہیں اور یہ امام مالک ہیں اہل حجاز میں اور یہ سفیان ثوری ہیں اہل عراق میں اور یہ امام اوزاعی ہیں اہل شام میں اور یہ لیف ہیں اہل مصر میں، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جس نے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی کہ جس نے قرأت کی تھی اور خود اس مقتدی نے نہیں کی تو اس مقتدی کی نماز باطل ہے۔“

(معنی ابن قدامہ ج: ۱ ص: ۵۶۶)

احناف حامی حدیث و سنت

جس نے امام کو رکوع میں پالیا اس نے وہ رکعت پالی

حضرت حسن بصریؒ حضرت ابو بکرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ

والسلام کے پاس (مسجد نبوی میں) پہنچے تو آپ رکوع میں جا چکے تھے۔ چنانچہ صف میں ملنے سے

قبل ہی وہ رکوع میں چلے گئے (اور آہستہ چلتے چلتے صف میں مل گئے) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے نکلی کرنے پر اور حریص کرے پھر

ایسا نہ کرنا۔

☆ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اذا جئتم الی الصلوٰۃ ونحن سجدوا فاسجدوا ولا تعتدوا

ہا شیئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلوٰۃ۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز

کے لئے آؤ اور ہم سجدہ میں جا چکے ہوں تو تم بھی سجدہ میں چلے جاؤ اور اس رکعت کو شمار

نہ کرو البتہ جس نے رکوع پالیا اس نے نماز (کی وہ رکعت) پالی۔

(ابوداؤد ج: ۱، ۱۲۹، مستدرک حاکم ج: ۱، ۲۱۶)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

چونکہ امام کو رکوع میں پالینے والے مقتدی کی رکعت کا ہو جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ مقتدی کی نماز فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے، مقتدی پر فاتحہ فرض نہیں اور یہ غیر مقلدین کے مسلک کے خلاف ہے اس لئے انہوں نے ان تمام احادیث و آثار اور اجماع اُمت کے خلاف بڑی ڈھٹائی کے ساتھ صاف طور پر کہہ دیا کہ جو شخص امام کو رکوع میں پائے اس کی وہ رکعت نہیں ہوتی سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو ادا کرنے۔

چنانچہ مولوی عبدالرحمن گوزکھپوری لکھتے ہیں:

”مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہوتی، اس لئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔“

(فتاویٰ نذیریہ ج ۱: ۴۹۶)

نوٹ:

یہ فتویٰ میاں نذیر حسین صاحب کا صدقہ فتویٰ ہے۔

نواب نور الحسن لکھتے ہیں:

”بے فاتحہ نماز صحیح است و نہ ادراک رکعت معتد بہ۔“

سورہ فاتحہ کے بغیر نہ نماز صحیح ہے اور نہ ہی (رکوع میں امام کو پانے سے) رکعت کے

پانے کا اعتبار ہے۔

(عرف الجادی ۲۶)

نواب وحیدالزماں لکھتے ہیں:

”ولو وجد الامام في الركوع لا يعتد بتلك الركعة“

قراءة الفاتحة فرض عندنا“

اگر امام کو رکوع میں پایا تو (نماز میں) اس رکعت کو شمار نہیں کیا جائیگا کیونکہ سورہ

پڑھنا ہمارے نزدیک فرض ہے۔

(نزل الامار ج 1: 3)

مولوی یونس دہلوی لکھتے ہیں:

”مدرك ركوع كى ركعت هرگز نہیں ہوتی۔“

(دستورالمتقی)

ملاحظہ فرمائیے:

اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ امام کو رکوع میں پالینے والا

کی رکعت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام تابعین عظام کا کہنا ہے کہ اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔

مجتہدین اس پر متفق ہیں کہ اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ لیکن غیر مقلدین بلا جھجک کہہ رہے ہیں

امام کو رکوع میں پانے والے کی رکعت ہرگز نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات مان لینے سے ان کے مسلک

پر زبرد پڑتی ہے اور چونکہ اپنا مسلک اور دوسروں کی مخالفت عزیز ہے اس لیے نہ قول رسول کی پروا

آثار صحابہ کی فکر، نہ اجماع کا خیال۔

احناف حامی حدیث و سنت

نماز میں آمین آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے

☆ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اذا قال القاری غیر المغضوب علیہ ولا الضالین فقال
من خلفہ آمین فوافق قوله قول اهل السماء غفر له
ما تقدم من ذنبه۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرأت کرنے والے (امام) نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا اور اس کے پیچھے آمین کہا، پس مقتدی کا آمین کہتا آسمان والوں (فرشتوں) کی آمین کہنے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

(مسلم ج ۱۷ ص ۱۷۶)

☆ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فتولوا
آمین فان الملائکة تقول آمین وان الامام يقول آمین
فمن وافق تامینہ تامین الملائکة غفر له ما تقدم من
ذنبه۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے۔ پس جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

(ابوداؤد ج ۱ ص ۱۱۳)

☆

عن الحسن ان سمرة بن جندب وعمران بن حصین
 قذاکرا فحدث سمرة بن جندب انه حفظ عن رده
 الله صلى الله عليه وسلم سكتين سكتة اذا اكبر
 اذا فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين
 سمرة وانكر عليه عمران بن حصین فكتبا في ذلك
 ابی بن كعب فكان في كتابه اليهما اوفى رده عليهما
 ان سمرة قد حفظ.

حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ حضرت سمرة بن جندب اور حضرت عمران بن حصین
 آپس میں مذاکرہ ہوا۔ حضرت سمرة نے بیان کیا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ
 وسلم کا (نماز میں) دو مرتبہ خاموش ہونا یاد رکھا ہے۔ ایک جب کہ آپ تکبیر تحریر
 چکتے دوسرے جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے
 فارغ ہوتے۔ حضرت عمران بن حصین نے اس کا انکار کیا، پھر ایسا ہوا کہ ان دونوں
 حضرات نے یہ مسئلہ پوچھنے کے لئے حضرت ابی بن کعبؓ کو خط لکھا۔ حضرت ابی
 کعبؓ نے اپنے جوابی خط میں لکھا کہ سمرة نے صحیح یاد رکھا ہے۔

(ترمذی ج: ۱: ۹۱)

☆

عن علقمة بن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه
 وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين
 خفض بها صوته.

حضرت علقمة بن وائلؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
 (نماز میں) غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ
 آمین کہتے ہوئے اپنی آواز پست کر دی۔

(ترمذی ج: ۱: ۵۸)

حضرت عمر اور حضرت علیؓ آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے

☆ عن ابراهيم قال قال عمر اربع يُخفين عن الامام
التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم و آمين واللهم ربنا
لك الحمد۔

حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام چار چیزوں کو

آہستہ کہے۔ ۱. اعوذ باللہ، ۲. بسم اللہ

۳. آمین ۴. اللہم ربنا لک الحمد۔

(کنز العمال ج ۸: ۲۷۴)

ملاحظہ کیجئے

۲۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے جیسا کہ حضرت وائلؓ کی احادیث سے واضح ہے، نیز آپ کا تکبیر اولیٰ کہہ کر سکوت اختیار کرنا پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دوبارہ سکوت کرنا اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر آہستہ آواز سے ثناء پڑھتے تھے اور سورۃ فاتحہ ختم کر کے ثناء کی طرح آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے۔

۳۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہئے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے پر مقتدیوں کو آمین کہنے کا حکم فرمایا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام بلند آواز سے آمین نہیں کہتا اور نہ اس کے ولا الضالین کہنے پر آمین کہنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ نیز آپ نے یہ جو فرمایا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے اور امام دونوں آہستہ آواز ہی سے آمین کہتے ہیں کیونکہ اگر فرشتوں اور امام کی آمین اور نچی آواز سے ہوتی تو لوگ ان کی آمین

کی آواز خود ہی سن لیتے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ بتلانے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ فرشتے اور امام بھی آمین کہتے ہیں۔

۴۔ حدیث میں نمازی کی آمین کے ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافق ہونے پر مغفرت وعدہ کیا گیا ہے۔ نمازی کی آمین میں فرشتوں کے ساتھ موافقت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ (۱) یہ موافقت وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جب امام ولا الضالین ختم کرتا ہے فرشتے فوراً آمین کہتے ہیں ہمیں بھی ان کی موافقت کرتے ہوئے اسی وقت آمین کہنا چاہئے۔ (۲) خشوع و اخلاص میں بھی موافقت ہو سکتی ہے جیسے فرشتے انتہائی خشوع اور اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی کہنی چاہئے۔ (۳) انقاء میں بھی موافقت ہو سکتی ہے یعنی جیسے فرشتے آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی آمین کی آواز سنائی نہیں دیتی ایسے ہی ہمیں بھی آہستہ آواز ہی سے آمین کہنی چاہئے۔

۵۔ خلفاء راشدین بھی آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم نخعی ابو معمر وغیرہ ہمارے آثار سے واضح ہے۔

۶۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین بھی آہستہ آواز ہی سے آمین کہتے تھے۔

۷۔ مذکورہ احادیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ آمین آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے وہیں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آمین کہنے کا مستون طریقہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی صرف ایک مرتبہ آمین کہیں اور دونوں کی آمین اکٹھی ہو جس کی صورت یہ ہے کہ امام جب ولا الضالین کہہ کر سکوت کرے تو مقتدی فوراً آمین کہہ لیں اس صورت میں امام اور مقتدی دونوں کی آمین اکٹھی ہو جائے گی۔ کیونکہ امام بھی ولا الضالین کے بعد متصلآ آمین کہے گا۔

۸۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد سے کہ جب قاری و امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ امام ہی پڑھے گا مقتدی نہیں۔ کیونکہ اگر مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھتا تو پھر یہ نہ فرماتے کہ امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو بلکہ آپ فرماتے کہ جب تم ولا الضالین کہہ چکو تو آمین کہو۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

قرآن و سنت آثار صحابہ و تابعین اور اقوال ائمہ مجتہدین کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے اونچی آواز سے آمین کہنا سنت ہے اور جو شخص ان آیات و احادیث اور آثار صحابہ کے پیش نظر ان سے کہے کہ بھائی آمین آہستہ آواز سے کہو تو وہ اسے تارک سنت سمجھ کر نفرت و حقارت سے دیکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسے یہودی تک کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے نیز وہ ایک آمین کے بجائے دو آمین کے بھی قائل ہیں۔ اس سلسلہ میں غیر مقلدین کی چند تحریرات ملاحظہ فرمائیے۔

پس دہلوی صاحب لکھتے ہیں:

”مغرب و عشاء اور صبح کی نماز میں جب امام اور مقتدی سورہ فاتحہ کی پھلی آیت کو قلم کر چکیں تو پہلے امام پھر مقتدی پکار کر آمین کہیں۔“

الخ (دستور الہندی ۱۱۱)

جماعت غریباہ اہلحدیث کے سابق امام مفتی عبدالستار قنبرا نے ہیں:

”پس آج کل بھی جو نا عاقبت اندیش وقتہ انگیز اونچی آمین سے چوے اور کہنے والو سے حسد رکھے وہ یقیناً یہودی ہے۔“

(نوی آمین بالجبر ۳)

مولوی محمد صاحب جو ناگرمی یوں گوہر افشانی کرتے ہیں:

”خیر میرا مقصد یہ تھا کہ یہ نری یہودیت ہے کہ اپنے امام کی رائے قیاس پر بمرور بیٹھنا اور دینی امور میں شخص تقلید کوئی چیز سمجھنا اور آمین کی آواز سے چوٹا۔“

(دلائل محمدی ج ۳: ۷۷)

مولوی خالد گرجا کی صاحب کے ابا جان

مولوی نور محمد گرجا کی صاحب یوں ذہرا گلے ہیں:

”اے منکرین آمین اور آمین بالجہر سے روکنے والو سوچو کہ تم کس قدر بے نصیب

نہراؤ ہو بلکہ اوروں کو بھی اس نعمت سے نامزاد اور بے نصیب کرتے ہو۔“

(اثبات آمین بالجہر ۱۳ مشمولہ استعمال)

یہی مولوی نور محمد صاحب اپنے رسالے میں آگے چل کر جوں کی بھڑاس نکالتے

ایسی غلیظانہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ پتا بخدا، تبر ابازی کی اس سے بدتر مثال شاید نہ

جاسکے۔ یہ صاحب خفیوں اور یہودیوں میں مماثلت ثابت کرنے کیلئے لکھتے ہیں۔

۱۔ یہودی آمین بالجہر سے جلتے تھے۔..... حنفی بھی آمین بالجہر سے جلتے ہیں۔

۲۔ یہودی جمعہ پڑھنے سے حسد کرتے تھے..... حنفی بھی جمعہ کی ترویج میں مضمون لکھتے

۳۔ یہودی قبلہ پر حسد کرتے تھے..... حنفی بدعتی بغداد کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔

۴۔ یہودی صفوں کی درستی سے جلتے تھے..... حنفی بھی پاؤں سے پاؤں ملانے سے جلتے

۵۔ یہودی سلام سے حسد کرتے تھے..... حنفی بھی محمد یوں سے سلام پسند نہیں کرتے

۶۔ یہودی علماء و مشائخ کی تقلید کرتے تھے..... حنفی بھی علماء و مشائخ کی تقلید کرتے ہیں

۷۔ یہودی لوگوں کو تقلید پر مجبور کرتے تھے..... حنفی بھی عوام کو تقلید پر مجبور کرتے ہیں

۸۔ یہودی اقوال اخبار پیش کرتے تھے..... حنفی بھی اقوال الرجال ہی پیش کرتے ہیں

۹۔ یہودی حضرت موسیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے تھے.....

حنفی بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صراط مستقیم بھول گئے۔

۱۰۔ جو لوگ مسلمانوں کا امام کے پیچھے آمین کہنے پر حسد کریں گے وہ اس امت کے

ہیں..... حنفی لوگ مسلمانوں کا امام کے پیچھے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں

یہی اس نعمت کے یہودی ہیں۔“

(اثبات آمین بالجہر)

حافظ عبدالرزاقی صاحب سے ایک سوال ہوا:

سوال: حکم ہے کہ جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی کہے۔ ایک مقتدی اس وقت جماعت میں شامل ہوا جب امام غور المفضوب پڑھ چکا تھا تو وہ امام کے ساتھ آمین کہے یا پہلے الحمد پڑھے۔ (محمد علی خطیب جامع مسجد جندیاں) آپ نے جواب دیا کہ

جواب: دونوں باتوں پر عمل کرے امام کے ساتھ بھی آمین کہے اور اپنی فاتحہ ختم کر کے بھی آمین کہے۔ (انج)

(فتاویٰ الہمدیٹ ج: ۱: ۳۹۳)

جماعت غرباء الہمدیٹ کے امام مفتی عبدالستار سے بھی ایک ایسا ہی سوال ہوا آپ نے جواب دیا کہ سوال کے ملاحظہ فرمائیے:

سوال: مسبق نے امام کی افتداء اس وقت کی کہ امام نصف الحمد پڑھ چکا تھا اور مقتدی نے الحمد شروع کی یہ نصف الحمد تک پہنچا تھا کہ امام نے ولا الضالین کو پڑھا تو مقتدی الحمد چھوڑ کر آمین کہے گا یا نہیں؟ اگر کہے گا تو اپنی الحمد پوری کر کے کہے یا نہیں؟ اگر کہے گا تو دوبارہ کہنا لازم آئے گا ایک درمیان فاتحہ دوسرے بعد فاتحہ اور اگر نصف الحمد میں آمین کہے گا تو یہ تحریف لازم آئے گی اور تحریف کلام اللہ میں حرام ہے اب کوئی ایسی حدیث ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ مسبق الحمد پڑھتا رہے آمین کہے یا الحمد چھوڑ کر آمین کہے۔

(سید اللہ زنا نصیر آبادی)

جواب: اس کا نام تحریف نہیں اتباع امام ہے۔ امام کی متابعت کی وجہ سے اگر نصف الحمد میں آمین کہے اور پھر الحمد ختم کر کے بھی آمین کہے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ انج۔

(فتاویٰ ستاریہ ج: ۱: ۱۳۰)

ملاحظہ فرمائیے:

یہ ہے غیر مقلدین حضرات کا طرز عمل کہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ایک (آہستہ آواز سے آمین کہنا) نہ صرف یہ کہ ان کے نزدیک صحیح نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے کو اونچی آواز سے آمین نہ کہنے والے ان کے نزدیک اس قدر برے ہیں کہ یہودیوں سے جائز ہیں۔ العیاذ باللہ۔ قارئین آپ نے غیر مقلدین کی تحریرات ملاحظہ فرمائیں غور کیجئے کہ آخر تبرابازی کس پر کی جارہی ہے۔ کیا اس تبرابازی سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہ ہوگی کہ آپ آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے کیا خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور تابعین عظام، نیز ہزاروں لاکھوں بزرگان دین کی رو میں بے ہمتی نہ ہوں گی کہ وہ خود بھی آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے اور دوسروں کو بھی آہستہ آواز سے آمین کہنے کا مسئلہ بتلاتے تھے۔ نقل کفر کا نہ باشد کیا یہ سب آمین بالجبر سے چڑتے تھے اور کیا یہ سب یہودی تھے؟ اذا فانت الحیاء فاعقل مسست، بی حیا باش و ہرچہ خواہی کن۔

قارئین محترم یہ ہیں غیر مقلدین عمل بالحدیث کے دعویدار جو تبرابازی میں رافضیوں کو بگایا کرتے ہیں۔ اب آپ مندرجہ بالا آیات کریمہ احادیث و آثار اور ان کے خلاف غیر... ردیے دہانے رکھ کر خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ یہ قرآن و حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت بلکہ حدیث دشمنی؟

احناف حامی حدیث و سنت

تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرنا چاہئے

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ چنانچہ آپ نے نماز پڑھی اور پہلی مرتبہ (تکبیر تحریمہ کے وقت) رفع یدین کرنے کے علاوہ کسی اور جگہ رفع یدین نہیں کیا، اور ترک رفع یدین کے باب میں حضرت براء بن عازبؓ سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث حسن ہے اور بے شمار اہل علم صحابہ کرام اور تابعین اسی کے (یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنے کے) قائل ہیں اور یہی حضرت سفیان ثوریؒ اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

(ترمذی ج: ۱: ۵۹)

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی اور ایک مرتبہ (تکبیر تحریمہ کے وقت) کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔

(ابوداؤد ج: ۱: ۱۰۹)

☆ اخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك من
سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود
عن علقمة عن عبد الله قال الا اخبركم بصلوة رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه اول مرة
ثم لم يعد،

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر نہ دوں (حضرت طاہرہ آپ کے شاگرد) کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پہلی مرتبہ (تکبیر تحریمیہ کے وقت) رفع یدین کیا پھر نہیں کیا۔

(نسائی ج: ۱ ص: ۱۷۷)

اخبرنا محمود بن غیلان البروزی حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن الاسود عن علقمة عن عبد اللہ انه قال الاصلی بکم صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیه الامرة واحدة۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں چنانچہ آپ نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ (تکبیر تحریمیہ کے وقت) رفع یدین کیا۔

(نسائی ج: ۱ ص: ۱۲۰)

حدثنا محمد بن الصباح البزارنا شریک عن یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن البراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلوة رفع یدیه الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔
حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو دونوں ہاتھ کانوں کے قریب تک لے جا کر رفع یدین کرتے پھر (کسی جگہ) نہ کرتے۔

حضرت محمد بن عمرو بن عطاء سے فرودی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز کا تذکرہ کیا تو ابو حمید ساعدیؓ کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر (تحریمہ) کہتے تو آپ دونوں ہاتھ موٹھوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمادیتے پھر اپنی کمر (مبارک) جھکا کر سر اور گردن کے برابر کر دیتے پھر رکوع سے سزاٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ آپ کی کمر کی ہر پسی اپنی جگہ پر آ جاتی اور جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بانہوں کو بچھاتے نہ سمیٹ کر پہلو سے لگا دیتے اور پاؤں کی انگلیوں کی نوکیں قبلے کی طرف رکھتے پھر جب دو رکعتوں پر بیٹھتے تو بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے۔

(بخاری ج ۱۱: ۱۱۳)

☆ عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالي ارا كانها اذ ناب خيل شمس اسكنوا في الصلوة۔

حضرت جابر بن سمرة فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حجرہ مبارک سے نکل کر) ہمارے پاس تشریف لائے (اور ہمیں رفع یدین کرتے ہوئے پا کر) فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے پاتا ہوں۔ جیسے بد کے ہوئے گھوڑوں کی ذمیں اٹھی ہوئی ہوں، نماز میں سکون اختیار کرو۔

(مسلم ج ۱: ۱۸۱)

☆

عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى
عليه وسلم ونحن يعني رافعوا يدينا في الصلوة
مابالهم رافعين ايديهم في الصلوة كانها اذ ناب
الشمس اسكنوا في الصلوة۔

حضرت جابر بن سمرة فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے
ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے
آپ نے فرمایا انہیں کیا ہو گیا کہ نماز کے اندر اس طرح رفع یدین کر رہے ہیں
کے ہوئے گھوڑوں کی دھمکی ہوئی ہوں۔ نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔

(نسائی ج 1)

حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت
اور حضرت عمرؓ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ان سب نے رفع یدین نہیں کیا۔ مگر پہلے
کے وقت نماز کے شروع میں، محدث اطلق بن ابی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم بھی
اپناتے ہیں پوری نماز میں۔

(دارقطنی ج 1: ۲۹۵، بیہقی ج ۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بکبیر تحریرہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

☆

عن الاسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في
من صلوة الاحين افتتح الصلوة۔

(الحمدیہ)

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے
میں کسی جگہ بھی رفع یدین نہیں کیا سوائے ابتداء نماز کے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 1: ۳۷)

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے:

☆ عن عاصم بن کلیب عن ایہ ان علیا کان یرفع یدیه اذا افتتح الصلوٰۃ ثم لا یعود۔

حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے تھے پھر (اس کے بعد) نہیں کرتے تھے۔
(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۲۳۶)

حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے:

☆ عن ابراہیم عن عبد اللہ انہ کان یرفع یدیه فی اول ما یستفتح ثم لا یرفعهما۔

حضرت ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۲۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے:

☆ اخبرنا مالک اخبرنی نعیم المجمر و ابو جعفر القاری ان ابا ہریرۃ کان یصلی بہم فکبر کلما خفض و رفع قال ابو جعفر القاری وکان یرفع یدیه حین..... یکبر ویفتتح الصلوٰۃ۔

حضرت امام محمدؑ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالکؑ نے اور امام مالکؑ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی نعیم الجمر اور ابو جعفر القاری دونوں نے کہ حضرت ابو ہریرہؓ ان کو نماز پڑھاتے تھے تو ہر اونچ نیچ میں تکبیر کہتے تھے۔ ابو جعفر القاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے۔

(موطا امام محمد ۸۸ و کتاب الحج ج ۱: ۹۵)

حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما

کے اصحاب و تلامذہ ابتداء نماز کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے:

☆ عن شعبة عن ابي اسحق قال كان اصحاب عبد

واصحاب علي لا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاة

قال وكيع ثم لا يعودون-

حضرت ابو اسحق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہما

کے اصحاب و شاگرد صرف نماز کی ابتداء میں رفع یدین کرتے تھے، حضرت

فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کسی مقام پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۶۶)

حضرت ابو اسحق سہمی، امام شعیبی اور ابراہیم نخعی

تینوں ابتداء نماز کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے:

☆ قال عبد الملك ورأيت الشعبي و ابراهيم و ابا اسحق

يرفعون ايديهم الا حين يفتحون الصلوة-

حضرت عبد الملك بن ابيجد فرماتے ہیں کہ میں نے امام شعیبی، ابراہیم نخعی اور ابو اسحق

سہمی کو دیکھا ہے یہ لوگ ابتداء نماز کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۳۷)

حضرت امام مالک کا مسلک:

☆ (قال) وقال مالك لا اعرف رفع اليدين في شيء من

تكبير الصلوة لا في خفض ولا في رفع الا في افتتاح

الصلوة-

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جان مارفح یدین کو نماز کی کسی بھی تکبیر میں نہ جھکتے ہوئے نہ اٹھتے ہوئے سوائے ابتداء نماز کے۔

(المدوۃ الکبریٰ ج: ۱ ص: ۶۸)

ترک رفع یدین پر اہل کوفہ کا اجماع:

☆ قال الامام الترمذی وبہ یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سیفان و اهل الکوفۃ۔

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ بے شمار اہل علم صحابہ کرام اور تابعین عظام اسی کے (صرف تکبیر تحریرہ کے وقت رفع یدین کرنے کے) قائل ہیں اور یہی حضرت سفیان ثوریؒ اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

(ترمذی ج: ۱ ص: ۵۹)

کسی بھی مقام پر رفع یدین کے واجب نہ ہونے پر اجماع:

☆ قال النووی "اجمعت الامة علی استحباب رفع الیدین عند تکبیرة الاحرام واختلفوا فیما سواها..... و اجمعوا علی انه لا یجب شیئ من الرفع۔"

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ تکبیر تحریرہ کے وقت رفع یدین کرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ میں اختلاف ہے..... اور اس پر بھی اجماع ہے رفع یدین کسی مقام پر بھی واجب نہیں۔

(نووی شرح مسلم ج: ۱ ص: ۱۶۸)

ابتداء اسلام میں تکبیر تحریرہ کے علاوہ بھی رفع یدین ہوا ہے لیکن بعد میں یہ رفع یدین

باقی نہیں رہا، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔

پہلی دلیل:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بعض صحابہ کرام کو نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت جابر بن سمیرہ سے روایت ہے، نیز آپ نے حکم دیا کہ سات مقامات کے علاوہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ سات مقامات میں نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کے علاوہ اور کسی جگہ کے رفع یدین کا ذکر نہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی احادیث سے ظاہر ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین باقی ہوتا تو آپ اس پر ناپسندیدگی ظاہر نہ فرماتے۔ ان سات مقامات میں نماز کے اندر رکوع والے رفع یدین کا ذکر بھی فرماتے، آپ کا اس زمانہ میں رفع یدین پر اظہار ناپسندیدگی کرنا اور ان سات مقامات میں رکوع والے رفع یدین کا ذکر نہ کرنا یہ بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین باقی نہیں رہا۔

دوسری دلیل:

کسی بھی صحیح و صریح حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے رکوع والے رفع یدین کا حکم دیا ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے وفات تک رکوع میں جاتے اٹھتے رفع یدین کیا ہے اگر یہ رفع یدین باقی ہوتا تو کوئی تو ایسی حدیث ملتی۔ کسی بھی ایسی حدیث کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رفع یدین باقی نہیں رہا۔

تیسری دلیل:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے افعال و اعمال کو سب سے زیادہ جاننے والے ان کو اپنانے والے اور ان پر عمل کرنے والے حضرات خلفاء راشدین ہیں۔ اگر رکوع والا رفع یدین باقی ہوتا تو لازمی تھا کہ خلفاء راشدین کا اس پر عمل ہوتا، لیکن ایک بھی صحیح حدیث سے حضرات خلفاء راشدین کا رفع یدین کرنا ثابت نہیں جب کہ صحیح احادیث سے ان حضرات کا رفع یدین نہ کرنا ثابت ہے، یہ اس بات کی بڑی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ رکوع والا رفع یدین باقی نہیں رہا، اگر یہ باقی ہوتا تو ناممکن تھا کہ خلفاء راشدین اس پر عمل نہ کرتے۔

چوتھی دلیل:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو رفع یدین کی حدیث کے مرکزی راوی ہیں۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ وہ خود تکبیر تحریرہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ رکوع والا رفع یدین باقی نہیں رہا ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو نہایت متبع سنت صحابی ہیں وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تو رفع یدین نقل کریں اور خود اس پر عمل نہ کریں۔

☆ اس بات پر اجماع امت ہے کہ تکبیر تحریرہ کے وقت بھی رفع یدین کرنا صرف مستحب (سنت غیر مؤکدہ) ہے فرض واجب نہیں۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

مندرجہ بالا احادیث و آثار اور اقوال ائمہ مجتہدین اور اجماع امت کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ رکوع والا رفع یدین سنت مؤکدہ، سنت متواترہ بلکہ واجب بلکہ فرض ہے، نہ کرنے سے نماز ناقص ہوتی ہے بلکہ باطل ہو جاتی ہے، اور جو رفع یدین نہ کرے وہ سخت گنہگار ہے اور سعادت سے محروم ہے۔ (العیاذ باللہ)

حکیم صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں:

”اور خود بھی رفع یدین شروع کر دیں کہ سنت مؤکدہ ہے۔“

(صلاة الرسول ۲۳۶)

کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں:

”ہم رفع یدین سے محروم بھائیوں کی خدمت میں بڑے خلوص اور محبت سے عرض کرتے ہیں کہ وہ جناب رحمت عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو ضرور اپنائیں اور عمل میں لائیں اور کسی کے کہے کہائے اس سعادت سے محروم نہ ہوں۔“

(صلاة الرسول ۲۳۲)

مزید قسطوں میں:

”ہر مسلمان رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے کہ اس کے بغیر نماز کا یقیناً نقصان ہے۔“

(صلاة الرسول ۲۳۳)

نور حسین صاحب گرجا کی مولوی خالد گرجا کی صاحب کے والد لکھتے ہیں:

”امام سبکی نے رفع الیدین کے متعلق (۴۳) صحابہ سے روایات نقل کی ہیں اور تابعین، تبع تابعین و ائمہ مجتہدین و محدثین کے نام لکھ کر از روئے دلائل ثابت کیا ہے کہ رفع الیدین سبب مؤکدہ ہے بلکہ واجب ہے اور اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔“

(قرۃ العینین ۶۹)

غیر مقلدین کے مجتہد ناصر عبداللہ روپڑی صاحب لکھتے ہیں:

”اعتیاد رفع الیدین کرنے ہی میں ہے نہ کرنے میں خطرہ ہے کہ نماز میں نقص آئے۔“

(فتاویٰ احمدیہ ج ۱: ۴۶۳)

ملاحظہ فرمائیے:

احادیث و آثار سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ رکوع والا رفع الیدین ہاتھی نہیں رہا۔ اس لیے خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رکوع کے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس کے سبب مؤکدہ یا فرض یا واجب ہونے کا قائل نہیں اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ رفع الیدین نہ کرنے سے نماز میں کسی بھی قسم کا نقص یا کمی آئے گی اور رفع الیدین نہ کرنے والا سخت گنہگار اور سعادت سے محروم ہوگا۔ لیکن غیر مقلدین بے خوف و خطر اس بات کے قائل ہیں کہ رفع الیدین رکوع کے وقت سبب مؤکدہ ہے، واجب ہے، فرض ہے اگر کوئی نہ کرے تو نماز ناقص ہوگی بلکہ باطل ہوگی اور رفع الیدین نہ کرنے والا سخت گنہگار اور سعادت سے محروم ہے۔

قارئین کرام ذرا انصاف کیجئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ان فتوؤں کی زد میں کون کون آرہا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرات براء بن عازب، حضرت عبادرضی اللہ عنہم کا کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صرف تکبیر تحریرہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے۔ اس کے بعد نہیں کرتے تھے، کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز باطل ہے خلفاء راشدین، صحابہ کرام، جلیل القدر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور ان کے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں متبعین جو رکوع والا رفع یدین نہیں کرتے تھے کیا ان سب کی نماز باطل ہے۔ کیا ان سب کی نماز ناقص ہے، کیا یہ سب گنہگار اور سعادت سے محروم ہیں، کیا حضرت داؤد علی ہجویری، خواجہ معین الدین چشتی، جمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت مجد والی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ اور ان جیسے ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام اور بزرگان دین کی نماز ناقص ہے۔ کیا ان کی نماز باطل ہے، کیا یہ حضرات سعادت سے محروم اور سخت قسم کے گنہگار ہیں؟ کیونکہ یہ حضرات بھی رکوع والا رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

قارئین کرام اب خود فیصلہ کیجئے کہ غیر مقلدین کا مذکورہ بالا احادیث صحیح صریحہ کے خلاف اس قدر تند و تیز قسم کے فتوے دینا یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

نماز میں جملہ استراحت نہیں کرنا چاہئے

☆ عن عباس اوعیاش بن سهل الساعدی انه كان في مجلس فيه ابوه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس ابو هريرة وابو حميد الساعدي وابو اسيد فذكر الحديث وفيه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك۔

عباس بن عیاش بن سہل ساعدی سے روایت ہے کہ وہ ایک ایسی مجلس میں تھے جس میں ان کے والد بھی تھے جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھے اور اسی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو حمید ساعدی اور حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ انہوں نے حدیث ذکر کی جس میں یہ بیان کیا کہ پھر آپ نے صلی اللہ ولیہ وسلم نے تکبیر کہی پھر سجدہ کیا پھر تکبیر کہی تو آپ سیدھے کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں۔ یعنی جملہ استراحت نہیں کیا۔

(ابوداؤد ج 1 ص 107)

☆ عن ابی ہریرۃ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہض فی الصلوۃ علی صدور قدمیۃ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرۃ علیہ العمل عند اهل العلم یختارون ان ینہض الرجل علی صدور قدمیہ۔ الخ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہی پر عمل ہے اور وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ آدمی (نماز میں دوسری، تیسری رکعت کے لئے) پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑا ہو۔

(ترمذی ج: ۱ ص: ۶۵)

خلفاء راشدین جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔

☆ عن الشعبي ان عمر وعلياً واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهضون في الصلوة على صدور اقدامهم۔

حضرت امام فقہی سے روایت ہے کہ حضرت عمر حضرت علیؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز میں اپنے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوا کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۱ ص: ۳۹۳)

خلفاء راشدین اور عام صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے تابعین اور تبع تابعین بھی جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل بھی جلسہ استراحت کے قائل نہیں ہیں۔ خیر القرون میں جلسہ استراحت کا رواج نہیں تھا۔

آج بھی حرمین شریفین کے امام جلسہ استراحت نہیں کرتے، ہاں اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے بعد سے فارغ ہو کر بیٹھ جائے اور پھر اٹھے تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ اعذار کی وجہ سے بہت سے اعمال میں شریعت کی طرف سے رخصت ہے۔ چنانچہ قعدہ میں عذر کی وجہ سے دو زانو بیٹھنے کے بجائے چوکڑی مار کر بیٹھنا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے۔

(دیکھئے بخاری ج: ۱ ص: ۱۱۳)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث کے خلاف عذرو غیرہ کی تفریق کے بغیر غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ جلسہ

استراحت مستحب بلکہ سنت ہے۔

چنانچہ نواب نور الحسن لکھتے ہیں:

”وجلسہ استراحت سنت است“

اور جلسہ استراحت سنت ہے۔

(عرف المجادی ۳۰)

اسامیل سٹلی صاحب لکھتے ہیں:

”یہ جلسہ واجب نہیں سنت ہے۔“

(رسول اکرم کی نماز ۸۳)

نواب وحید الزمان لکھتے ہیں:

”ویرتحتب ان یجلس جلسۃ خفیفة بعد السجدة الثانية“

اور دوسرے جگہ کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا (جلسہ استراحت کرنا) مستحب ہے۔

(نزل الامار ج ۱: ۸۱)

لاحظہ فرمائیے:

جو عمل نہ تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معمول ہے نہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ

کوادہ خلفاء راشدین، صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین عظام کا معمول ہے اور نہ ہی وہ خیر القرون میں

مدان پذیر ہے ایسا عمل غیر مقلدین کے نزدیک سنت ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خلفاء راشدین

صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کو اس سنت کا علم نہ ہو سکا اور وہ اس سنت سے محروم

ہے۔ العیاذ باللہ۔

قارئین فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

نماز میں بجدے سے اٹھتے وقت

دونوں ہاتھ زمین پر ٹک کر نہیں اٹھنا چاہئے:

☆ عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهض في الصلاة.

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں (دو) رکعت کے لئے اٹھتے وقت (دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹک کر اٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

(ابوداؤد ج ۱: ۲۳۱)

☆ عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذ نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ بجدے میں جاتے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھتے پھر ہاتھ اور جب بجدے سے کھڑے ہوتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے۔

(ابوداؤد ج ۱: ۲۳۱)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ نماز میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے ہی اٹھنا چاہیے ان کے ہاں عذرو غیرہ کی کوئی قید نہیں چنانچہ۔
پوس دہوی صاحب لکھتے ہیں:

”پھر زمین پر دونوں ہاتھ ٹیک کر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں۔“

(دستورالنجفی ۱۰۱)

ملاحظہ فرمائیے:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معمول نماز میں زمین پر ہاتھ ٹیکے بغیر اٹھنے کا ہے، حضرت علیؑ اسی کو سنت قرار دیتے ہیں۔ عام صحابہ کرام کا اسی پر عمل ہے، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھنے سے منع بھی فرما رہے ہیں، لیکن غیر مقلدین اس کی پراہ کئے بغیر اور عذرو غیرہ کی قید لگائے بغیر کہہ رہے ہیں کہ نماز میں زمین پر ہاتھ ٹیک کر کھڑے ہوں۔

• قارئین یہ ہے غیر مقلدین کا حدیث پر عمل اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی

موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

دونوں قدموں میں ایک طرح بیٹھنا ہی مسنون ہے اور توڑک مسنون

☆ عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة قلت لا بد لي من الصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركعتي لالتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليسرى وتصب يده اليمنى، قال عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم۔

حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ آیا تو میں نے (جی میں نے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ضرور دیکھوں گا (میں نے) جب تشهد میں بیٹھے تو آپ نے بائیں پاؤں بچھا کر اپنا بائیں ہاتھ بائیں رکھ لیا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح اہل علم کی اکثریت کا اسی پر عمل ہے۔

(ترمذی ج 1)

☆ عن عبد الله وهو بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال سنة الصلوة ان تصب القدم اليمنى واستقباله باصابع القبلة والجلوس على اليسرى۔

حضرت عبد اللہ اپنے والد عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سنت میں سے ہے کہ (تشہد میں) دائیں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رکھی جائیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھا جائے۔

(نسائی ج 1)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ اکبر کے ساتھ اور قرأت الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ شروع فرماتے تھے اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنا سر مبارک نہ اوپر اٹھاتے تھے اور نہ بالکل نیچے جھکا دیتے تھے۔ دونوں کے درمیان رکھتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ میں نہ جاتے جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور جب آپ سجدہ سے سر اٹھاتے تو (دوسرے) سجدے میں نہ جاتے جب تک کہ سیدھے نہ بیٹھ جاتے اور آپ ہر دو رکعتوں میں التحیات پڑھتے تھے اور آپ بائیں پاؤں بچھا دیتے اور دایاں کھڑا رکھتے تھے اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے تھے اور آپ اس سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی اپنے دونوں بازوؤں کو درندہ کی طرح بچھا دے اور آپ نماز سلام سے ختم فرماتے تھے۔

(مسلم ج ۱: ۱۹۴)

☆ عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كان يروي عبد الله بن عمر يتربع في الصلوة اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال انما سنة الصلوة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلاي لا تحملاني،

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھتے تھے کہ جب آپ (سجدہ میں) بیٹھتے تو چوڑی مار کر بیٹھتے (فرماتے ہیں کہ) میں ابھی بالکل نو عمر تھا میں بھی ایسا کرنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ (بیٹھنے میں) دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور بائیں پاؤں پھیلا دو میں نے کہا کہ آپ تو اس طرح کرتے ہیں (چوڑی مارتے ہیں) آپ نے فرمایا میرے پاؤں میرا بار نہیں اٹھاپاتے۔

(بخاری ج ۱: ۱۱۴)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و تصریحات کے خلاف غیر مقلدین پہلے اور دوسرے قعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قعدہ اولیٰ میں تو دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پر ہی بیٹھا جائے دوسرے قعدہ میں تو رک کیا جائے عذر ہو یا نہ ہو اور تورک ضرور کیا جائے کیونکہ یہ سنت ہے۔ چنانچہ پونس قریشی صاحب لکھتے ہیں:

”جب آخر کی رکعت میں بیٹھیں تو بائیں پاؤں نکال کر بائیں جانب کے کولے بیٹھیں (اس کو تورک کہتے ہیں)۔“

(دستورالمتعمی)

اسامیل سلمیٰ صاحب لکھتے ہیں:

”آخری تشہد میں دایں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں دائیں طرف نکال کر کولے بیٹھ جائے یا دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر بائیں کولے پر بیٹھے۔“

(رسول اکرم کی نماز ۱۵)

صادق سیالکوٹی صاحب تحریر کرتے ہیں:

نوٹ: ”بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے یہ سنت ہے ہر مسلمان کو آخری قعدہ میں ضرور تورک کرنا چاہئے۔“

(صلوٰۃ الرسول ۲۴)

ملاحظہ فرمائیے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً دونوں طرح سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں قعدوں میں بلا تفریق دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسی کو سنت قرار دے رہے ہیں، اسی پر بس نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صاف طور پر تورک وغیرہ سے منع بھی فرما رہے ہیں لیکن غیر مقلدین جو عمل بالحدیث کے دعویدار ہیں۔ انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول و عمل سے ثابت مسنون طریقہ تو پسند نہیں اور جس طریقہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے وہ ان کے نزدیک سنت ہے اسے ضرور کرنا چاہیے، لاجہول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

قارئین کرام کیا اسی کو عمل بالحدیث کہتے ہیں؟ اور فیصلہ کیجئے کہ یہ حدیث کی موافقت

ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

پہلے قعدے میں تشهد سے آگے کچھ نہیں پڑھنا چاہئے

☆ عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله
وسلم في الركعتين كأنه على الرضف قلت حتى
قال ذلك يرید،

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام (تین
رکعت والی نماز میں) دو رکعت پڑھ کر ایسا بیٹھتے گویا جلتے توے پر بیٹھے ہیں یعنی
جلد اٹھ جاتے تھے۔ ابو عبیدہ حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے کہا (تیسری
کے لئے) کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا ہاں یہی مراد ہے۔

(نسائی ج ۱۱)

☆ عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يزيد في الركعتين على التشهد،

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں میں تشهد
زیادتی نہیں کرتے تھے۔

(مسند ابی یعلیٰ ج ۷: ۷)

☆ عن الحسن انه كان يقول لا يزيد في الركعتين الا
على التشهد۔

حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ پہلی دو رکعتوں میں تشهد پر زیادتی نہ کرے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۱۶)

☆ عن الشعبي قال من زاد في الركعتين الاولين
التشهد فعليه سجدتا سوا۔

امام شعبی فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی دو رکعتوں میں تشهد پر زیادتی کی اس پر سجدہ

لازم ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۱۶)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ قعدہ اولیٰ میں تشهد کے بعد

آگے درود وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چنانچہ

نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں:

”و ظاہر ادعیہ واردہ در تشهد شامل ہر دو تشهد ست مگر آنکہ در تشهد اوسط تخفیف خوب

ست۔“

ظاہر یہ ہے کہ جو دعائیں تشهد میں وارد ہوئی ہیں وہ دونوں تشهدوں کو شامل ہیں (یعنی

دونوں تشهدوں میں پڑھنی چاہئیں) البتہ درمیانے تشهد میں تخفیف بہتر ہے،

(عرف الجادی ۲۸)

نواب وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں:

”ثم یجلس للتشہد..... ویستحب عملاً فیہ الصلوٰۃ

الکاملۃ علی النبی صلعم ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ لیدع بہ

ربہ ولیخففہ فی اتمام بان یختصر فی الادعیۃ بعد التشہد

والصلوٰۃ علی النبی صلعم ثم ینہض مکبراً۔“

پھر تشهد کے لئے بیٹھے اور اس میں مستحب یہ ہے کہ پہلے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر پورا

درود پڑھے پھر جو دعائے سب سے اچھی لگتی ہو اسے اختیار کر کے اپنے رب سے وہ دعائے مانگے اور

اس عمل کے اتمام میں اختصار سے کام لے جائیں طور کہ تشهد کے بعد دعا اور درود میں اختصار کرے

پھر تکبیر کہتا ہوا (تیسری رکعت کے لئے) اٹھ کھڑا ہو،

(نزل الابرار ج: ۱۱: ۸۱-۸۲)

مولوی خالد گرجا کی صاحب لکھتے ہیں:

”اسی طرح پہلے تشہد میں پڑھ لیا جائے یا نہ پڑھا جائے ایک ہی بات ہے بلکہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہو۔“

(صلاة النبی ۳۳)

ملاحظہ فرمائیے:

احادیث بتلا رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز کے پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے بلکہ تشہد سے فارغ ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے تھے، اسی کے مطابق صحابہ کرام عمل کرتے ہیں اسی پر تابعین فتویٰ دیتے ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت امام شعبیؒ تو فرماتے ہیں کہ کسی نے تشہد سے آگے کچھ پڑھا تو اس پر سجدہ ہو واجب ہو جائے گا ان امور کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھا جائے لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں صاحب نماز کی مرضی ہے پڑھے نہ پڑھے اس کے لئے دونوں برابر ہیں بلکہ پڑھنا مستحب ہے اور ثواب میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔ قارئین ذرا سنجیدگی سے سوچئے کہ جس پر اللہ کے نبی کا عمل نہیں تابعین اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں کیا وہ عمل مستحب ہو سکتا ہے کیا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل کے خلاف کسی عمل میں ثواب کی زیادتی تو کجا خود ثواب ہو سکتا ہے؟ مگر غیر مقلدین کو اس کی کیا پرواہ انہیں اپنے اجتہاد سے غرض ہے۔

احناف حامی حدیث و سنت

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر دعا مانگنا صحیح ہے

☆ عن ابی امامہ قال قیل یا رسول اللہ انی الدعاء اسمع

قال جوف اللیل الاخر و دبر الصلوٰۃ المكتوبات۔

حضرت ابوالامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ

کوئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا جو رات کے آخری حصہ میں اور فرض

نمازوں کے بعد مانگی جائے۔

(ترمذی ج ۲: ۱۸۷)

☆ عن علی بن ابی طالب قال کان النبی صلی اللہ علیہ

وسلم اذا سلم من الصلوٰۃ قال اللهم اغفر لی ما قدمت

وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت

اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت،

حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ

ہو کر سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگتے۔ اللهم اغفر لی ما قدمت وما اخرت

وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی

انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت،

(ابوداؤد ج ۱: ۲۱۲)

☆ عن سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان

ربکم حیسی کریم یتحیی من عبده اذا رفع یدیه الیہ

ان یردہما صفراً،

حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار انتہائی حیا والا اور سخی ہے اور اپنے بندے سے شرماتا ہے۔ کہ جب وہ ان طرف (دعا کے لئے) ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں خالی لوٹا دے۔

(ترمذی ج ۳: ۱۹۶، ابوداؤد ج ۱: ۲۰۹، ابن ماجہ ۸۳)

☆ عن عمر ابن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے تو انہیں لوٹاتے نہ تھے جب تک کہ چہرے پر نہ پھیر لیتے تھے۔

(ترمذی ج ۳: ۱۷۶)

ذكر ابن الكثير في قصة علاء بن الحضرمي

☆ "ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى بالناس فلما قضى الصلوة جتا على ركبتيه وجتا الناس ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله (الخ) حافظ بن كثير نے حضرت علاء بن حضرمی کے قصہ میں ذکر کیا ہے۔

کہ جب صبح صادق ہو گئی تو فجر کی نماز کے لئے اذان دی گئی۔ آپ نے لوگوں (صحابہ و تابعین) کو نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ اور لوگ دوزانو بیٹھ گئے، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگے، لوگوں نے بھی آپ ہی کی طرح کیا۔

(البدلیۃ والنہایۃ ج ۶: ۳۲۸)

انہی احادیث کے پیش نظر فقہائے کرام نے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کو مستحب قرار دیا ہے۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

ہین:

ان تمام احادیث و اثار کے خلاف موجودہ دور کے غیر مقلدین فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعائے مانگنے کو صحیح نہیں سمجھتے کوئی اسے بدعت و حرام قرار دے کر ختم کروانا ہے کوئی رسم اور تہیہ کہتا ہے۔

چنانچہ غیر مقلدین کے شیخ الحدیث ابولبرکات احمد صاحب لکھتے ہیں:

”قصہ مختصر، مروجہ دعا ایک رسم ہے یا ایک تہیہ ہے جس کا ثبوت سنت رسول یا اسوۂ رسول میں، خلفائے راشدین کی سیرت میں، ائمہ اربعہ کے فتویٰ میں یا محدثین کی کتابوں کے ابواب میں موجود نہیں ہے وقتاً فوقتاً اور کبھی کبھی والی بات بھی غلط ہے کیونکہ نئی سے ایک مرتبہ بھی اجتماعی دعائے ثابت نہیں ہے تو پھر کبھی کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔“

(فتاویٰ برکاتیہ ۹۸)

ایک غیر مقلد محمد ابو عبد السلام نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے خلاف ایک رسالہ لکھا ہے جس کے ٹائٹل پیج پر جلی حروف سے لکھا ہے ”فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعائے مانگنا بدعت حرام ہے۔“

ملاحظہ فرمائیے:

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائے مانگنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام سے قولاً و کلاماً ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائے مانگی ہے۔ انفراداً بھی اجتماعاً بھی۔ مزید یہ کہ اس پر اسلاف کا تعامل و توارث بھی موجود ہے جو بجائے

خود ایک مستقل دلیل ہے لیکن موجودہ دور کے غیر مقلدین اس عمل کو رسم، تقیہ، بدعت اور حرام
دے رہے ہیں۔

فیصلہ قارئین کے سر ہے وہ بتلائیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام، صحابہ کرام اور
کے تعامل سے ثابت کسی عمل کو بدعت و حرام قرار دینا کیا اس کو عمل بالحدیث کہتے ہیں۔ آیا یہ
کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

عورت و مرد کی نماز ایک جیسی نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے

☆ عن ابن عمر رضی اللہ عنہم فروعاً اذا جلست المرأة

فی الضلوة وضعت فخذها علی فخذها الاخری فاذا

سجدت الصقت بطنها فی فخذیها کاستر ما یكون لها

وان اللہ تعالیٰ ینظر الیہا ویقول یا ملائکتی اشهدکم

انی قد غفرت لہا،

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے تو

اپنے ہیند کو رانوں سے چپکالے اس طرح کہ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ پردہ

ہو جائے بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر (رحمت) فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے

فرشتوں میں تمہیں گواہ بنانا ہوں اس بات پر کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔

(کنز العمال ج ۷: ۵۴۹)

☆ عن ابی اسحاق عن العمارث عن علی رضی اللہ عنہ

وارضاه قال اذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم

فخذیہا۔

جب عمارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورت سجدہ

کرے تو خوب سمٹ کر کرے اور اپنی دونوں رانوں کو ملائے رکھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۷۹، سنن کبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۲۲۲)

☆ عن ابراهيم قال اذا سجدت المرأة فلتزق بطنها
بفخذينها ولا ترفع عجزتها ولا تجافي كما يجافي
الرجل،

حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے
چپکالے اور اپنی سرین کو اوپر نہ اٹھائے اور اعضاء کو اس طرح دھونڈ کر رکھے جیسے مرد دور
رکھتا ہے۔

(بیہقی ج ۲: ۲۲۲)

☆ عن مجاهد انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على
فخذه اذا سجد كما تضع المرأة،

حضرت مجاہد اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں
پر رکھے جیسا کہ عورت رکھتی ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۲۷۰)

☆ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
تقبل صلوة الحائض الا بخمار۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عورت
کی نماز اور منی کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔

(ترمذی ج ۱: ۸۶، ابوداؤد ج ۱: ۹۴)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث اور اقوال فقہاء کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ فرق کرنا مداخلت فی الدین ہے، العیاذ باللہ۔
چنانچہ پوس قریشی صاحب لکھتے ہیں:

”شریعت محمدی میں مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں بلکہ جس طرح مرد نماز پڑھتا ہے اسی طرح عورت کو بھی پڑھنی چاہیے۔“

(دستورالمتعمی ۱۵۱)

حکیم صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں:

”عورت اور مردوں کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں..... پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مردزیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور ہیئت اختیار کریں اور مرد کوئی اور..... یہ دین میں مداخلت ہے یاد رکھیں کہ تکبیر تحریرہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمتہ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لئے ایک ہیئت اور شکل کی نماز ہے۔ سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکور و اناث کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں بتایا۔“

(صلوۃ الرسول ۱۹۰-۱۹۱)

قارئین محترم ذرا چشم بصیرت سے دیکھئے کہ یہ مداخلت فی الدین کا فتویٰ کس پر لگ رہا ہے؟ کیا اللہ کے نبی دین میں مداخلت کرتے تھے؟ جی بات یہ ہے کہ غیر مقلدین خود دین میں مداخلت کرتے ہیں من پسند حدیث کو مانتے ہیں چاہے وہ من گھڑت ہی کیوں نہ ہو اور اپنے موقف کے خلاف احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔

کارین فیصلہ فرمائیں کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق کرنے کو مداخلت فی الدین

دینا یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

غیر مقلدین سے ایک سوال:

اگر غیر مقلدین کے نزدیک مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر مندرجہ

چیزوں کی عورتوں کو اجازت ملنی چاہئے۔

۱۔ وہ اگر اپنی مسجد الگ بنانا چاہیں تو بنالیں۔

۲۔ اس میں وہ مؤذن، امام و خطیب بھی بننا چاہیں تو بنیں۔

۳۔ انہیں اذان دینے کی اجازت ہونی چاہئے۔

۴۔ اقامت کی اجازت ہونی چاہئے۔

۵۔ عورتوں کی امامت کی اجازت ہونی چاہئے۔

۶۔ مردوں کی طرح عورت کو بھی آگے ہو کر امامت کرانی چاہئے درمیان میں کھڑے

ہونے کی پابندی نہیں ہونی چاہئے۔

۷۔ مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہئے اور سب سے

صف باندھنے کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہئے۔

۸۔ اونچی آواز سے قرأت اور اونچی آواز سے آمین کہنے کی اجازت ہونی چاہئے۔

۹۔ انہیں بھی منگے سر نماز پڑھنے اور نیز کہنیاں اور تخمے کھول کر نماز پڑھنے کی اجازت ہو

چاہئے۔

۱۰۔ ان کے لئے بھی جماعت میں شرکت ضروری ہونی چاہئے۔

۱۱۔ ان پر بھی جمعہ و عیدین کی نماز واجب ہونی چاہئے۔

لیکن غیر مقلدین حضرات عورتوں کو ان امور کی اجازت نہیں دیتے بلکہ مرد و عورت میں

فرق کرتے ہیں ہمیں بتلایا جائے کہ ان امور میں فرق کرنا مداخلت فی الدین نہیں ہے تو فقہاء نے جن

امور میں فرق بیان کیا ہے ان میں فرق کرنا مداخلت فی الدین کیوں ہے؟

احناف حامی حدیث و سنت

تابالغ کی امامت جائز نہیں

☆ عن ابن عباس قال نهانا امير المؤمنين عمر أن نوم

الناس في المصحف و نهانا ان يؤمنا الا المحتلم.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں امیر المؤمنین حضرت عمر

فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم لوگوں کو امامت کروائیں قرآن

میں دیکھ کر اور اس بات سے بھی کہ ہماری امامت کرائے تابالغ۔

(کنز العمال ج ۸: ۲۶۴)

☆ عن الشعبي قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم،

حضرت امام شعبی فرماتے ہیں کہ لڑکا امامت نہ کرائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۳۳۹)

☆ عن مجاهد قال لا يؤم غلامٌ حتى يحتلم،

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ لڑکا امامت نہ کرائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱: ۳۳۹)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام آثار صحابہ و تابعین کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ نابالغ کی امامت ہے اور وہ بالغوں کی موجودگی میں امام بن سکتا ہے۔ اور بلوغت کے اعتبار کی کوئی دلیل نہیں ہے چنانچہ نواب نور الحسن صاحب لکھتے ہیں:

”صحیح ست امامت طفل نابالغ و نیست دلیل بر اعتبار بلوغ“۔

نابالغ بچے کی امامت صحیح ہے اور بلوغت کے اعتبار کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

(عرف الجادی)

یونس قریشی صاحب لکھتے ہیں:

”جو اب اور بڑی عمر والے لوگوں کے ہوتے نابالغ لڑکا امام بنے تو جائز ہے بشرط

سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہو“۔

(دستورالمتنسی)

ملاحظہ فرمائیے:

صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین، عظام اور ائمہ مجتہدین فرما رہے ہیں کہ نابالغ لڑکا

ہونے تک امام نہ بنے، اس کی امامت صحیح نہیں اور غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ نابالغ کی امامت

ہے۔

اِخْتِلافِ حَامِي حَدِيثِ وَ سُنَّتِ

امام بہترین شخص ہونا چاہیے

☆ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امام اپنے میں سے بہترین لوگوں کو بناؤ کیونکہ امام تمہارے نمائندے ہوتے ہیں تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان۔

(سنن کبریٰ بیہقی ج ۳: ۹۰)

☆ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا تؤمن من امرأة رجلا ولا يؤمن اعرابي مهاجراً ولا يؤمن فاجر مؤمناً الا ان يقهره سلطان يخاف سيفه وسوطه۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک طویل حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دار نہ امامت کرے کوئی عورت کسی مرد کی اور نہ گنوار مہاجر کی اور نہ قاجر (بدکار بدعتی) مومن کی لیکن جب ڈر ہو بادشاہ کے کوڑے یا تلوار کا۔

(ابن ماجہ ۷۷)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

مذکورہ احادیث اور اقوال ائمہ مجتہدین کے خلاف غیر مقلدین کے نزدیک رافضی

خارجی، معتزلی، مرزائی سب کے پیچھے نماز جائز ہے۔

چنانچہ لو اب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”فتجوز امامة الرافضی والخارجی والمعتزلی

والمقلد“۔

رافضی، خارجی، معتزلی اور مقلد کی امامت جائز ہے۔

(نزل الابرار ج ۱ ص ۹۷)

موصوف ایک دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

”میرا مذہب اور عمل ہے کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے اقتداء (نماز میں) جائز ہے چاہے وہ

شیعہ ہو یا مرزائی“۔

(قلای علماء حدیث ج ۲: ۱۸۹)

ملاحظہ فرمائیے:

غور فرمائیے رافضی، خارجی، مرزائی صرف فاسق و فاجر ہی نہیں بلکہ کافر ہیں ان کے

پیچھے نماز صحیح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ غیر مقلدین کے یہاں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز

ہے۔

قارئین انصاف سے فیصلہ فرمائیے کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اور پتہ چلے کہ امام

بے وضو ہے تو امام اور مقتدی سب نماز کو لوٹائیں

☆ عن ابی ہریرۃ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الی الصلوۃ وکبر ثم اشعار الیہم فمکثوا ثم انطلق
فاغتسل وکان رأسہ یقطر ماءً فصلی بہم فلما انصرف قال
انی خرجت الیکم جنبا وانی نسیت حتی قمت فی
الصلوۃ،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز پڑھانے کے
لئے تشریف لائے آپ نے تمہیں کہی پھر آپ نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا وہ اپنی
جگہ ٹھہر گئے آپ تشریف لے گئے اور غسل کیا۔ آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا
تھا (واپس آکر) آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے
تو فرمایا میں تمہارے پاس جنابت کی حالت میں چلا آیا اور نہانا بھلایا گیا حتیٰ کہ نماز
میں کھڑا ہو گیا۔

(ابن ماجہ ۸۷)

☆ عن عمرو بن دینار ان علی بن ابی طالب قال فی
الرجل یصلی بالقوم جنبا قال یعیدو یعیدون،

حضرت عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے شخص کے
بارے میں جس نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی ہو یہ فرمایا کہ وہ خود
بھی نماز لوٹائے اور لوگ بھی نماز لوٹائیں۔

(کتاب الآثار للامام ابی حنیفہ بروایت الامام محمد ۳۱)

☆ عن ابراهيم قال اذا فسدت صلوة الامام فسدت صلوة
من خلفه۔

حضرت ابراہیم نخعیؒ فرماتے ہیں کہ جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی نماز
فاسد ہو جائے گی۔

(کتاب الآثار)

☆ عن الثوري قال سمعت حماداً يقول اذا فسدت صلوة
الامام فسدت صلوة القوم،

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حمادؒ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب
امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدیوں کی بھی فاسد ہو جائے گی۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۲: ۵۰)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ اگر امام حالت جنابت یا بغیر وضوء کے نماز پڑھا دے یا کسی اور وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے تو فقط امام اپنی نماز لوٹائے۔ مقتدیوں کو لوٹانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی امام کے ذمہ ہے کہ وہ مقتدیوں کو یہ بتائے کہ میں نے اس حالت میں نماز پڑھا دی ہے۔

چنانچہ نواب وحید الزماں لکھتے ہیں:

”وإذا ظهر حدث امامه أو مفسد آخر في رأي المقتدي

إعاد الإمام صلوة ولا يعيد المقتدي ولا يلزم على الإمام إخبارا
القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب أو فاقد شرط“۔

اور جب ظاہر ہو جائے امام کا بے وضوء ہونا یا امام کی طرف سے نماز فاسد کرنے والی کسی اور چیز کا ہونا مقتدی نہ لوٹائے اور امام کے ذمہ نہیں ہے کہ اگر وہ مقتدیوں کو بغیر وضوء کے یا جنابت کی حالت میں یا کسی اور شرط کے نہ پائے جانے کی صورت میں نماز پڑھا دے تو وہ مقتدیوں کو بتلائے کہ میں نے اس حالت میں نماز پڑھا دی ہے۔

(نزل ابرار ج: ۱۰۱)

ملاحظہ فرمائیے:

جو مقلدین غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے لہجہ فکر یہ ہے کہ اگر غیر مقلد امام نے بے وضو یا حالت جنابت میں نماز پڑھا دی اور بتلانا ضروری نہ سمجھتے ہوئے مقتدیوں کو بتلایا بھی نہیں تو مقلدین کی نماز کا کیا بنتے گا؟

احناف جامی حدیث و سنت

نماز میں قرآن مجید و یکہ کر قرأت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے

☆ عن رفاعہ بن رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فقص هذا الحدیث قال فیہ فتوضاً کما امرک اللہ ثم

تشہد فاقم ثم کبر فان کان معک قرآن فاقرأ به والا فلا

حمد اللہ عزوجل و کبرہ و هللہ الحدیث،

حضرت جرفاء بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ حدیث (اعرابی کی

نماز والی) بیان کی۔ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے

فرمایا کہ جیسے تجھے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے وضوء کر پھر اذان کہہ پھر اقامت کہہ پھر تکبیر

(تحریر) کہہ پھر اگر تجھے کچھ قرآن یاد ہو تو وہ پڑھ ورنہ پھر اللہ عزوجل کی حمد کر اور اس

کی تکبیر و جلیل کر (یعنی الحمد للہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ

کہہ)

(ابوداؤد ج: ۱۲۵، ترمذی ج: ۱: ۶۶)

☆ عن عبد اللہ بن ابی اوفی قال جاء رجل الی النبی

صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطیع ان آخذ من

القرآن شیئاً فعلمنی ما یجزئنی منه فقال قل سبحان

اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا
قوة الا بالله۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے پاس آکر کہنے لگے کہ میں قرآن پاک سے کچھ حاصل کرنے کی (یعنی
ربانی یاد کرنے کی) استطاعت نہیں رکھتا لہذا آپ مجھے کچھ سکھائیں جو میرے لئے
کافی ہو۔ آپ نے فرمایا تم کہہ لو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا
الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله۔

(ابوداؤد ج ۱: ۱۳۱، نسائی ج ۱۰: ۱۰۷، مسند احمد ج ۴: ۳۵۳)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ قرآن میں دیکھ کر قرأت کرتے ہوئے نماز پڑھنا پڑھانا صحیح ہے، بلکہ نماز کے دوران اگر قرآن پاک ہاتھوں میں اٹھائے رکھے اور درتے بھی بدلتا رہے تب بھی نماز صحیح ہے، چنانچہ نواب وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں:

”ولا بأس ان یقرأ من المصحف ولو حمله بالید او الیدین او قلب او راقه سواء كان فی الفرائض او النوافل وكذا لك لا بأس ان یفتح علی امامه من المصحف“
(نماز کے دوران) قرآن پاک میں دیکھ کر قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ قرآن پاک کو ایک یا دونوں ہاتھوں سے اٹھا رکھا ہو اور درتے بدلتا رہے، فرائض اور نوافل اس میں یکساں ہیں ایسے ہی قرآن پاک میں سے دیکھ کر اپنے امام کو لقمہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

(نزل الابرار ج: ۱ ص: ۱۱۰)

مزید لکھتے ہیں:

”وكذا لا یكره ان یقرأ الامام فیها من المصحف یقلب الاوراق باصبعة“

اور ایسے ہی مکر و وہ نہیں ہے کہ امام نماز میں قرآن پاک میں دیکھ کر قرأت کرے اور اپنی

انگلی سے اور اتنی جتنے۔

(نزل الامار ج ۱: ۱۳۱)

ملاحظہ فرمائیے:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ضرورت کے باوجود جس کا حکم نہیں دیتے۔ خلیفہ راشد

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس سے منع فرماتے ہیں تابعین و تبع تابعین جس کو صحیح نہیں سمجھتے وہ

غیر مقلدین کے یہاں بنا کراہت صحیح ہے، نماز چاہے جاتی ہے تو جاتی رہے۔

قارئین فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے

جان بوجھ کر کلام کرے یا بھولے سے

☆ عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوة قبل ان تأتي ارض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد على فاخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة فقلت له يا رسول الله قد سلمت عليك وانت تصلي فلم ترد على السلام فقال ان الله قد يحدث من امره ما يشاء وانه مما احدث ان لا تكلموا في الصلوة -

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرزمین حبشہ آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران سلام کرتے تھے تو آپ جواب دیتے تھے، جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو میں نے آپ کو سلام کیا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا مجھے قریب و بعید کی فکر میں نے آگھیرا، میں بیٹھ گیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی، میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو جب کہ آپ نماز پڑھ

رہے تھے سلام کیا تھا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا ہے
شک اللہ تعالیٰ اپنے معاملہ میں جو چاہتا ہے نئے احکام نازل فرما دیتا ہے اور ان نئے
احکام میں سے یہ حکم بھی ہے کہ تم نماز میں باتیں نہ کرو۔

(مسند حمیدی ج: ۱، ۵۲، ابوداؤد ج: ۱، ۱۳۳، نسائی ج: ۱، ۱۳۷)

☆ عن زید بن ارقم قال کنا نتکلم فی الصلوة یکلم الرجل
صاحبه وهو الی جنبه فی الصلوة حتی نزلت و قومو
الله قنتین فامرنا بالسکوت و نهینا عن الکلام،

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔
ایک شخص دوسرے شخص سے جو اس کے پہلو میں ہوتا نماز میں باتیں کر لیا کرتا تھا حتیٰ
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ”کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی کے ساتھ“
تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور بات سے منع کر دیا گیا۔

(بخاری ج: ۱ ص: ۱۶۰، مسلم ج: ۱ ص: ۲۰۴ واللفظ لمسلم)

☆ قال ابو عیسیٰ حدیث زید بن ارقم حدیث حسن
صحیح والعمل علیہ عند اکثر اهل العلم قالوا اذا تکلم
الرجل عامداً فی الصلوة اونا سياً اعاد الصلوة وهو قول
الثوری وابن المبارک (الخ)

حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح
ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں عمداً یا بھول
کر کلام کرے تو نماز دوبارہ پڑھے، یہی حضرت سفیان ثوری اور حضرت عبداللہ بن
مبارک کا قول ہے۔

(ترمذی ج: ۱، ۹۲)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ نماز کے دوران بھولنے سے یا نماز کی بھول کے متعلق بات چیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نماز صحیح رہتی ہے۔
چنانچہ نواب نور الحسن خاں صاحب لکھتے ہیں:

”و کلام ساری مفید صلوٰۃ نیست“

”بھول کر بات چیت کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔“

(عرف الجادی ۲۳)

یونس قریشی صاحب لکھتے ہیں:

”امام اور مقتدی اگر نماز کی بھول کی بابت کچھ گفتگو کر لیں تو بھی نماز میں کچھ نقصان واقع نہیں ہوتا۔“

(دستور المعنی ۱۱۳)

غیر مقلدین کے شیخ الحدیث اسماعیل سلمی صاحب لکھتے ہیں:

”اگر نماز میں بھول ہو جائے اور نماز میں اس کی اطلاع نہ ہو سکے نماز ختم ہونے کے بعد معلوم ہو کہ کوئی غلطی ہوئی اس کے متعلق تحقیق کے طور پر جو گفتگو ہو نماز میں اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا نماز کی تکمیل کے بعد سجدہ سہو کر لیا جائے۔ جس طرح ذوالبیدین کی حدیث سے ظاہر ہے۔“

(رسول اکرم کی نماز ۱۰۳)

ملاحظہ فرمائیے:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرم رہے ہیں کہ نماز میں بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم نماز میں بات چیت نہ کرو، نماز میں بات چیت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ ہمیں آیت کریمہ ”وَقَوْمُوا إِلَٰهَٰ قَلْبَتَيْنِ“ نازل ہونے کے بعد بات چیت سے منع کر دیا گیا تھا۔

۱۶۔ عن طائوس الوتر واجب بعد اليه اذا نسي،

حضرت طاؤسؓ سے مروی ہے کہ وتر واجب ہیں اگر بھولے سے رہ جائیں تو قضاء پڑھے جائیں گے۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۳: ۸)

احناف حامی حدیث و سنت

وتر کی تین رکعتیں اکٹھی ایک سلام سے پڑھنی چاہئیں

حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف سے مروی ہے انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبری کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے چار رکعتیں پڑھتے کچھ نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین و طویل ہوتی تھیں، پھر چار رکعتیں پڑھتے کچھ نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین و طویل ہوتی تھیں پھر تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔

(بخاری ج: ۱، ۱۵۴، مسلم ج: ۱، ۲۵۴، نسائی ج: ۱، ۱۱۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے آٹھ رکعات پڑھتے پھر تین رکعات وتر پڑھتے۔ پھر دو رکعت (سنت) فجر کی نماز سے پہلے پڑھتے۔

(نسائی ج: ۱، ۱۱۲)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر تین رکعات پڑھتے کرتے تھے۔ تینوں رکعتوں میں (قصار) منقل کی نو سورتیں پڑھتے تھے، ہر رکعت میں تین سورتیں پڑھتے سب سے آخری سورۃ قل هو اللہ احد ہوتی تھی۔

(ترمذی ج: ۱، ۱۰۶)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربك الاعلیٰ قل یا ایہا الکفرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے ہر سورۃ ایک رکعت میں۔

(ترمذی ج: ۱، ۱۰۶)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر (کی پہلی رکعت) میں سبح اسم ربك الاعلیٰ دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکفرون تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے اور سلام فقط آخری رکعت ہی میں پھیرتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد تین دفعہ سبحان الملك القدوس کہتے تھے۔

(نسائی ج: ۱: ۱۹۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہوتی ہے پھر جب تمہارا قارغ ہو کر جاتے کا ارادہ ہو تو ایک رکعت اور پڑھ لو یہ تمہاری پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنا دے گی، حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا کہ وہ وتر تین رکعات ہی پڑھتے ہیں۔

(بخاری ج: ۱: ۱۳۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جب تم ہر دو رکعت میں قعدہ کرو تو التحیات لله (آخر تک) پڑھو۔

(نسائی ج: ۱: ۱۳۰)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تین وتر ایک سلام سے پڑھتے تھے:

☆ عن عمر بن الخطاب انه اوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام،

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے تین رکعات وتر پڑھے اور تینوں رکعتوں میں سلام کے ذریعہ فصل نہیں کیا۔ (یعنی دو رکعتوں پر سلام نہیں پھیرا)

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۲: ۲۹۳)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وتر تین رکعات پڑھتے تھے:

☆ عن زاذان ان علیا کان یوتر بثلاث من آخر ال
قاعداً۔

حضرت زاذان سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وتر تین رکعات پڑھا کرتے رات کے آخری حصہ میں بیٹھ کر۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲: ۱۰۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی تین رکعات وتر کے قائل تھے:

☆ عن عقبہ بن مسلم قال سألت ابن عمر عن الوتر فی
اتعرف وتر النهار قلت نعم صلوة المغرب قال صدق
احسنت،

حضرت عقبہ بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ وتر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا تم دن کے وتر جانتے ہو میں نے کہا جی ہاں نماز مغرب، آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا اور خوب کہا۔

(طحاوی ج ۱: ۱۰۲)

حضرت ابی بن کعب بھی وتر تین رکعات ایک سلام سے پڑھتے تھے:

☆ عن الحسن قال کان ابی بن کعب یوتر بثلاث لا یس
الافی الثالثة مثل المغرب،

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وتر تین رکعات پڑھتے کرتے تھے اور سلام فقط تیسری رکعت میں پھیرتے تھے مغرب کی نماز کی طرح۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۳: ۱۰۲)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ آپ جتنے چاہیں وتر پڑھیں، دوسری رکعت پر قعدہ نہ کریں، وتر دو مسلاموں سے پڑھنا افضل ہے اور دو تشہد اور ایک سلام کے ساتھ وتر پڑھنا (جیسا کہ احناف پڑھتے ہیں) منع ہے، تین رکعات وتر پڑھنے کی حدیث ضعیف ہے بلکہ ثابت ہی نہیں، تین رکعات وتر پڑھنا منع آیا ہے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ وتر تین رکعات نہ پڑھے جائیں۔

چنانچہ مولوی یونس دہلوی صاحب لکھتے ہیں:

”الغرض نماز وتر خواہ ایک رکعت پڑھیں خواہ تین خواہ پانچ خواہ سات بیچ میں کوئی قعدہ نہ کریں بلکہ آخری رکعت میں بیٹھیں اور صرف ایک تشہد سے وتر پڑھ کر سلام پھیریں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر میں بیچ کا تشہد ثابت نہیں ہے بلکہ بیچ کا تشہد کرنے میں نماز مغرب سے مشابہت ہو جاتی ہے اس لیے جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رکعات وتر پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔“

(دستورالمتقی ۱۴۴)

نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں:

”وحدیث ایتار بسمہ رکعت ضعیف بلکہ غیر ثابت ست بلکہ ازاں ہی آمد و پس احتیاط در ترک ایتار بسمہ رکعت باشد۔“

اور تین رکعات وتر پڑھنے کی حدیث ضعیف ہے بلکہ ثابت ہی نہیں بلکہ اس سے
ممانعت آئی ہے پس احتیاط اس میں ہے کہ وتر تین رکعات نہ پڑھے جائیں۔

(عرف الجادی)

ملاحظہ فرمائیے:

اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحاح ستہ کی جن احادیث میں تین رکعات وتر کا تذکرہ
احادیث ہی نہیں ہیں اور العیاذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کرام
تابعین و تبع تابعین اور ہزاروں لاکھوں بزرگان دین سب کے سب غیر ثابت اور غیر معتد
منوع چیز پر عمل کرتے رہے۔

احناف حامی حدیث و سنت

وتر میں دُعاء قنوت سارے سال واجب ہے اور دُعاء قنوت کے لئے

تکبیر کہنا اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا مسنون ہے

اور دُعاء قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی چاہئے

☆ عن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ انه سئل عن القنوت

فقال حد ثنا البراء بن عازب قال سنة ماضية،

حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے قنوت وتر کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا کہ ہمیں حضرت

براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ہے فرمایا کہ یہ جاری و ساری سنت ہے۔

(اخرجه السراج بحوالہ آثار السنن ۲۰۷)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ وتر کی آخری رکعت میں

قل هو اللہ احد پڑھتے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور رکوع میں جانے سے پہلے دُعاء قنوت

پڑھتے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲: ۳۰۷)

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح

کی نماز پڑھی، جب آپ دوسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہوئے تو آپ نے تکبیر کہی پھر دُعاء

قنوت پڑھی پھر تکبیر کہہ کر رکوع کیا۔

(طحاوی ج ۱: ۱۷۱)

☆ قال عبد العزيز وسأل رجل انسا عن القنوت ابعدا

الركوع او عند فراغ من القراءة قال لا بل عند فراغ من

القراءة۔

حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
قنوت کے بارے میں پوچھا کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے یا قرأت سے فارغ ہو کر
آپ نے فرمایا قرأت سے فارغ ہو کر۔

(بخاری ج ۲: ۵۸۶)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر تین
رکعات پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سبع اسم ربك الا علی دوسری میں قل یا ایہ
الکفرون، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے اور دعائے قنوت رکوع میں جانیے
سے پہلے پڑھتے تھے۔

(نسائی ج ۱: ۱۹۱)

☆ عن ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان یوتر فیقنت قبل الرکوع،

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر
پڑھتے تھے تو دعائے قنوت رکوع میں جانے سے پہلے پڑھتے تھے۔

(ابن ماجہ ۸۴)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث کے خلاف غیر مقلدین نہ تو دعائے قنوت کے جواز کے قائل ہیں، نہ دعائے قنوت پڑھتے وقت تکبیر کہنے کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ تکبیر کہتے وقت رفع یدین کرنے کو صحیح قرار دیتے ہیں، البتہ عام دعاؤں کی طرح دعائے قنوت دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں، نیز ان کا کہنا ہے کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد مستحب ہے۔

چنانچہ مقلدین کے مجتہد العصر عبداللہ روپڑی صاحب ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔

”قنوت سے پہلے تکبیر کہنے کی بابت حدیث میں کچھ تصریح نہیں آئی اور سلف کا اس میں اختلاف ہے بہتر ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس کی بابت دلیل کی رو سے پوری تفسیح نہ ہو، ہاں ہاتھ اٹھانا دعا میں بیشک ثابت ہے اور دعائے قنوت بھی ایک دعا ہے تو اس وجہ سے اس میں بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ خصوصاً جب کہ بہت سے سلف کا عمل بھی اس پر ہے (قیام اللیل) البتہ جس طریقے سے حنفیہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ تکبیر تحریر کی طرح رفع یدین کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا اور اسی طرح رکوع سے پہلے دعائے قنوت کا ثابت کرنا اور اسی پر حصر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ پہلے پیچھے دونوں طرح ثابت ہے پس دونوں پر عمل چاہیے۔“

(فتاویٰ الہدیٰ ج: ۱: ۶۳۲)

فتاویٰ علماء حدیث میں ایک سوال کے جواب میں اس طرح تحریر ہے۔

”صحیح حدیث سے صراحتاً ہاتھ اٹھا کر یا باندھ کر قنوت پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ دعا

ہونے کی حیثیت سے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا اولیٰ ہے رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے، بخاری

شریف میں رکوع کے بعد ہے اگر پہلے پڑھ لے تب بھی جائز ہے کیونکہ بعض روایات میں قبل
الرکوع بھی آیا ہے ہاتھ اٹھا کر پاندھ لینے کا کوئی ثبوت نہیں۔

(فتاویٰ علماء حدیث ج ۳: ۲۰۶)

عبدالرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں:

”يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده والمختار

عندی کونہ بعد الركوع“۔

وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح جائز ہے، میرے نزدیک مختار و

پسندیدہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے۔

(تحفۃ الاحوذی ج ۱: ۲۲۳)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

ملاحظہ فرمائیے:

لیکن غیر مقلدین نے ان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل کے بالکل خلاف رکوع

سے اٹھ کر دعائے قنوت پڑھنا مستحب اور مختار و پسندیدہ عمل ہے۔ غور فرمائیے کیا حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام اور صحابہ کرام سے صحیح احادیث سے ثابت شدہ عمل کے خلاف کوئی عمل مستحب ہو سکتا ہے؟

ہرگز نہیں لیکن غیر مقلدین کو اس سے کیا غرض انہیں صرف اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنے سے

مطلب ہے۔ صحیح ہو یا غلط، قارئین کرام اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ غیر مقلدین کا یہ طرز عمل اختیار

کرنا یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

فجر کی سنتیں فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے پر بھی پڑھنی جائز ہیں

☆ عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم
على شيء من النوافل اشد تعاهداً منه على ركعتي
الفجر،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی نفل کی اتنی زیادہ
پابندی اور حفاظت نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی دو رکعتوں کی۔

(بخاری ج: ۱۵۶، مسلم ج: ۱۵۱)

☆ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا بدعوا ہما وان طردکم الخیل،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
فجر کی دو رکعتوں کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں۔

(ابوداؤد ج: ۱۷۸)

حضرت عبداللہ بن ابی موسیٰ (اشعری رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو امام فجر کی نماز پڑھا رہا تھا آپ نے ایک ستون کی
اونٹ میں فجر کی دو رکعت سنتیں ادا کیں۔

(معجم طبرانی کبیر ج: ۹: ۲۷۷)

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہو اور لوگ صبح کی نماز پڑھ
رہے ہوں اور تم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو (پہلے) وہ پڑھ لو اگرچہ تمہارا خیال ہو کہ تم سے پہلی
رکعت فوت ہو جائے گی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۲: ۲۵۱)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد سنتیں ادا کرنا (بلا کسی تفصیل کے) ناجائز ہے رسول خدا کی نافرمانی ہے اور نافرمانی کی سزا جہنم ہے۔

چنانچہ حکیم صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں:

”اور کیا ان لوگوں کا جماعت کی موجودگی میں سنتیں پڑھنا رسول خدا کی نافرمانی نہیں ہے جب کہ حضور انورؐ نے لا صلوة فرما کر ہر نماز کی نالی فرمادی ہے۔“

(صلوة الرسول ۴۲)

جماعت: براء اہل حدیث کے مفتی عبدالستار ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں،

سوال و جواب دونوں ملاحظہ فرمائیے۔

سوال: زید کہتا ہے جب صبح کی نماز ہو رہی ہو تو کوئی نماز نہیں، بکر کہتا ہے کہ جو شخص مسجد میں صبح کے وقت آئے اور نماز ہو رہی ہو تو اس کو چاہئے پہلے صبح کی سنتیں پڑھ لے پھر نماز میں ملے کس کا قول صحیح ہے،

جواب: زید کا قول صحیح ہے بکر کا غلط ہے بلکہ اغلط ہے، حدیث شریف میں ہے، اقبست

الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة یعنی جس وقت فرض نماز کی تکبیر

ہو جائے اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی بموجب حدیث ہذا ہر وہ شخص جو صبح کے فرض

ہوتے ہوئے سنتیں پڑھے خدا اور رسول کا نافرمان ہے۔ جیسا کہ آج کل احناف کی

جملہ مساجد میں خصوصاً فجر کے وقت یہی طریقہ رائج ہے۔ یہ سراسر نبی علیہ السلام کی

نافرمانی ہے۔ اور نافرمانی کی سزا جہنم ہے۔ ومن بعض اللہ ورسوله

ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين۔“

(تلاویٰ ستاریہ ج ۳: ۴۰)

ملاحظہ فرمائیے:

لیکن غیر مقلدین بلا سوچے سمجھے فتوے دے رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے رسول خدا کی نافرمانی ہے۔ کیا صحابہ کرام اور تابعین عظام کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات نہ تھے؟ کیا ان ہستیوں کو احادیث کی سمجھ نہ تھی؟ کیا یہ صحابہ و تابعین رسول خدا کے نافرمان تھے؟ کیا یہ سب ناجائز کام کرتے تھے نقل کفر کفر نہ باشد کیا یہ سب جہنمی ہیں؟

قارئین کرام ذرا سوچئے یہ فتوے کس پر لگ رہے ہیں کون ان فتوؤں کی زد میں آرہا ہے؟ کیا اسی کو عمل باللحدیث کہتے ہیں کہ صحابہ و تابعین ایک عمل کو جائز سمجھ کر کریں اور اُسے بے دھڑک ناجائز کہہ دیا جائے۔

قارئین محترم اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے

☆ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الصلوٰۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس وعن الصلوٰۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک اور فجر کے بعد سورج نکلنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

(بخاری ج: ۱، ۸۲، مسلم، ج: ۱، ۲۷۵، واللفظ المسلم)

☆ عن ابن عباس قال سمعت غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منهم عمر بن الخطاب وکان احبهم الیّ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الصلوٰۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب الشمس،

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام سے سنا کہ جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

(بخاری ج: ۱، ۸۲، مسلم ج: ۱، ۲۷۵، واللفظ المسلم)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ اگر فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھنے سے رہ جائیں تو فرضوں کے فوراً بعد ادا کر لی جائیں۔

چنانچہ پولس قریشی صاحب لکھتے ہیں:

”اگر یہ سنتیں جماعت میں شریک ہونے کی وجہ سے رہ گئی ہوں تو فرضوں کے بعد پڑھ لیں۔“

(دستورالسنن ص ۱۰۳)

حکیم صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں:

”اگر آپ ایسے وقت مسجد میں پہنچیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور سنتیں آپ نے

پڑھی ہوں تو پھر جماعت کے پاس سنتیں مت پڑھنی شروع کر دیں کیونکہ جماعت کے ہوتے ہوئے

پاس کوئی نماز نہیں ہوتی آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرض پڑھ کر سنتیں پڑھ لیں۔“

(صلوٰۃ الرسول ص ۳۵۱)

ملاحظہ فرمائیے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی

جائے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں تو وہ انہیں سورج طلوع

ہونے کے بعد پڑھے، خود آپ کا معمول بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام اسی پر عمل پیرا

ہیں لیکن غیر مقلدین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول و فعل اور صحابہ کرام و تابعین کے عمل کے

سامنے ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ فجر کے فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنے سے روکنے کی کوئی

ضرورت نہیں فرضوں کے بعد سنتیں پڑھ لینی چاہئیں۔

قارئین کرام اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود کسی عمل کو

اختیار کرنا یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مسنون نہیں ہے

☆ عن طائوس قال سئل بن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت احدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها ورخص في الركعتين بعد العصر حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بھی یہ دو رکعتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ یہ دیکھا کہ کسی نے بھی عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کی اجازت دی ہو۔

(ابوداؤد ج: ۱۸۴)

حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، تیسری بار آپ نے فرمایا جو چاہے اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اسے سنت بتالیں۔

(بخاری ج: ۱۵۷)

انہی احادیث و آثار کے پیش نظر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے دو نفل پڑھنا سنت نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی انہیں سنت سمجھ کر پڑھے گا تو ایسی صورت میں یہ مکروہ ہوں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود انہیں سنت سمجھ کر پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ دوسرے اگر کوئی ان نفلوں میں لگ کر مغرب کی نماز میں تاخیر کرے گا تو تاخیر مغرب کی وجہ سے بھی یہ مکروہ ہوں گے۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کے نزدیک مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا سنت ہے، صرف یہی نہیں بلکہ ان نفلوں کو سنت نہ سمجھنے والا ظالم اور بدعتی ہے،

چنانچہ عبدالرحمن مبارک پوری صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”قبل نماز مغرب دو رکعت سنت پڑھنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس کو اذان اور اقامت کے درمیان پڑھنا چاہیے..... مغرب کی اذان ختم ہونے کے ساتھ ہی دو رکعت درود پڑھنا چاہیے۔ اللھم رب هذا الدعوت التامہ آخر تک پڑھنا چاہیے پھر سنت شروع کرنی چاہیے اور مغرب کی سنتیں فجر کی سنت کی طرح ہلکی پڑھنی چاہیے۔“

(فتاویٰ علماء حدیث ج ۳: ۳۲)

دارالحدیث رحمانیہ دہلی کے شیخ الحدیث مولوی احمد اللہ صاحب رقمطراز ہیں:

”مغرب کے پہلے سنتیں پڑھنے والے کو کوئی روکے یا اس کو سنت نہ سمجھے وہ ظالم اور بدعتی ہے۔“

(فتاویٰ علماء حدیث ج ۳: ۳۵)

ملاحظہ فرمائیے:

قارئین کرام غور فرمائیے یہ غیر مقلدین کا فتویٰ کس پر لگ رہا ہے؟ کیا خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان نوافل کو سنت سمجھنے سے نہیں روکا؟ عجیب بات ہے یہ حضرات فتویٰ لگاتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس کی زد میں کون کون آسکتا ہے؟ شان باجہاد میں جو منہ میں اُگل دیا۔

قارئین فیصلہ آپ کے سر ہے آپ فیصلہ فرمائیے یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی بہت ترغیت دیتے تھے، لیکن اس سلسلہ میں کوئی تاکید حکم نہیں دیتے تھے، آپ فرماتے تھے جس نے رمضان (کی راتوں میں) میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور معاملہ اسی طرح رہا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں بھی اسی طرح رہا۔

(مسلم ج ۱: ۲۵۹)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کئے ہیں اور میں نے تمہارے لئے اس میں قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ سو جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے اور قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے کہ جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔

(نسائی ج ۱: ۲۳۹)

حضرت مردہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درمیان رات میں گھر سے تشریف لے گئے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے بھی وہی نماز پڑھی جب صبح ہوئی تو لوگوں نے (پچھلی رات کی نماز کا) آپس میں تذکرہ کیا چنانچہ دوسری رات پہلے سے زیادہ تعداد ہو گئی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ وہی نماز لوگوں نے بھی پڑھی، صبح ہوئی تو پھر

چہ چاہو اور تیسری رات لوگوں کی تعداد اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی وہی نماز پڑھی، جب چوتھی رات آئی تو مسجد نمازیوں کثرت کی وجہ سے تنگ ہو گئی۔ اس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لئے ہی تشریف لائے جب نماز ادا کر لی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا تمہارا یہاں آنا مجھ پر مخفی نہیں تھا لیکن میں ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے کرنے سے عاجز ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور معاملہ اسی طرح

رہا۔

(بخاری ج: ۱، ۴۶۹، مسلم ج: ۱، ۵۹)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ نے پورے مہینے ہمیں رات میں نماز نہیں پڑھائی۔ یہاں تک کہ سات دن باقی رہ گئے تو (تیسویں رات میں) آپ نے ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ جب چھ دن رہ گئے تو نماز نہیں پڑھائی (یعنی چوبیسویں رات میں) پھر جب پانچ دن رہ گئے تو نماز پڑھائی۔ (یعنی چھویں رات میں) یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس رات کے باقی حصے میں بھی ہمیں نفل پڑھاتے دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز (عشاء) پڑھے پھر اسے گھر واپس جائے تو پوری رات نماز پڑھنے والا شمار کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چار دن رہ گئے تو آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی (یعنی چھبیسویں رات میں) جب تین دن باقی رہ گئے تو آپ نے اپنے گھر والوں، عورتوں اور دیگر لوگوں کو جمع کیا اور نماز پڑھا

(یعنی ستائیسویں رات میں) اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ہم سے فلاح رہ جائے گی۔ حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں میں نے عرض کیا فلاح رہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سحری مراد ہے، پھر باقی ایام میں آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔

(ابوداؤد ج ۱: ۱۹۵)

☆ عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بیس رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲: ۲۹۳، بیہقی ج ۲: ۴۹۶،

معجم طبرانی کبیر ج ۱۱: ۳۹۳، مسند عبد بن حمید ۴۱۸)

حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما

کے دور خلافت میں تراویح ۲۰ رکعات پڑھی جاتی تھیں

حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاری فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان المبارک میں ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا تو ایک گروہ اس کی اقتداء کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری کی (اقتداء میں جمع کر دوں تو بہت اچھا ہو، پھر آپ نے اس کا عزم کر لیا اور لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا، پھر میں ایک دوسری رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کے ہمراہ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نئی چیز بہت اچھی ہے اور وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو وہ افضل ہے اس نماز سے پڑھ رہے ہو آپ کی مراد اس سے رات کے آخری حصے میں قیام کرنا تھا اور لوگ شروع رات میں قیام کرتے تھے۔

(بخاری ج: ۱: ۶۹)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ رمضان میں رات کو لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اچھی طرح قرأت نہیں کر سکتے اگر تم رات کو ان پر قرآن پڑھا کرو تو وہ ہو، حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین پہلے ایسے نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تاہم یہ ایک اچھی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو پندرہ رکعات پڑھائیں۔

(کنز العمال ج: ۸: ۶۰۹)

حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر اکٹھا کر دیا، آپ انہیں بیس رکعتیں پڑھاتے تھے۔

(ابوداؤد ج: ۱: ۲۰۲، سیر اعلام النبلاء ج: ۱: ۶۰۰)

جامع المسانید والسنن للحافظ ابن الکثیر ج: ۱: ۵۵

☆ عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصل بهم عشرين ركعتة،

حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعات پڑھائے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲: ۳۹۳)

☆ عن عبد العزيز بن رفيع قال كان ابي بن كعب يصلى
 بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث،
 حضرت عبد العزيز بن رفیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان
 المبارک میں مدینہ طیبہ میں لوگوں کو بیس رکعات پڑھاتے تھے اور وتر تین رکعات۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲: ۳۹۳)

حضرت ابن ابی ذئب بواسطہ حضرت یزید بن خصیفہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ
 عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ (صحابہ کرام) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
 دور خلافت میں رمضان المبارک میں بیس رکعتیں پڑھتے تھے، حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں
 کہ وہ لوگ تراویح میں ہتھین سورہیں پڑھتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت
 میں لوگ شدت قیام کی وجہ سے اپنی لائٹیوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔

(سنن کبریٰ بیہقی ج ۲: ۴۹۶)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی تراویح ۲۰ رکعات ہی پڑھی جاتی تھیں:

حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان
 المبارک میں قراء حضرات کو بلایا اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ۲۰ رکعات تراویح
 پڑھائے حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔

(سنن کبریٰ بیہقی ج ۲: ۴۹۶)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تراویح ۲۰ رکعات پڑھتے تھے:

حضرت زید بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہم
 کو رمضان میں نماز پڑھاتے تھے۔ جب فارغ ہو کر واپس ہوتے تو ابھی رات رہتی تھی، امام اعش
 رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ (حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) بیس رکعات تراویح پڑھتے
 تھے اور تین رکعت وتر۔

(مختصر قیام اللیل للروزی ۱۵۷)

تراویح کے بیس رکعات ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع:

حضرت محمد بن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ (متوفی ۵۹۵ھ) فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ نے یزید بن رومان سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں رمضان المبارک میں لوگ تیس رکعات پڑھا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ دو لوگوں کو رمضان المبارک میں بیس رکعات پڑھائے اور یہ اجماع کی مانند ہے۔

(المعنی ابن قدامہ ج ۲: ۱۶۷)

حضرت سفیان ثوری متوفی ۱۶۱ھ اور حضرت عبداللہ

بن مبارک متوفی ۱۸۱ھ ۲۰ رکعات تراویح کے قائل تھے:

حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم ۲۰ رکعات کے قائل ہیں جیسا کہ حضرت علی، حضرت عمر اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، یہی حضرت سفیان ثوری اور حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے۔

(ترمذی ج ۱: ۱۶۶)

حضرت امام ابو حنیفہ م ۱۵۰ھ کا مسلک:

حضرت امام فخر الدین حسن بن منصور اور جندی (المعروف قاضی خان متوفی ۵۹۲ھ) فرماتے ہیں کہ تراویح کی مقدار ہمارے اصحاب اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے نقل کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قیام کرنا (تراویح پڑھنا) سنت (مؤكدہ) ہے اس کا ترک مناسب نہیں، ہر مسجد والوں کے لئے ان کی مسجد میں ہر رات وتر کے علاوہ بیس رکعتیں پڑھائی جائیں، پانچ ترویجے دس سلاموں کے ساتھ ہر دو رکعت پر سلام پھیرے۔

(فتاویٰ قاضی خان ج: ۱: ۱۱۴)

حضرت امام مالک م ۱۶۹ھ کا مسلک:

حضرت قاضی ابن رشد مالکی (متوفی ۵۹۵ھ) فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام نے ان رکعات کی تعداد کے اختیار کرنے میں جو کہ لوگ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں اختلاف کیا ہے پس حضرت امام مالکؒ نے اپنے ایک قول کے مطابق اور حضرت امام ابوحنیفہؒ حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام احمد بن حنبلؒ اور داؤد ظاہری نے وتر کے علاوہ ۲۰ رکعات پڑھنے کو اختیار کیا ہے، اور ابن القاسم نے امام مالکؒ سے روایت کیا ہے کہ حضرت امام مالکؒ ۳۶ رکعات تراویح اور تین رکعت وتر پڑھنے کو مستحسن سمجھتے تھے۔

(بدلیۃ الجہد ج: ۱: ۱۵۲)

حضرت امام شافعی م ۲۰۴ھ کا مسلک:

امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے قیام رمضان (تراویح) کے بارے میں اختلاف کیا ہے ان میں سے بعض وتر سمیت اکتالیس رکعتوں کے قائل ہیں یہی اہل مدینہ کا قول ہے اور اسی پر اہل مدینہ کا عمل ہے اور اکثر اہل علم ۲۰ رکعات (تراویح) کے قائل ہیں جیسا کہ حضرت علی، حضرت عمر اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے یہی حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ بن مبارکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا قول ہے، حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی پایا ہے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں کہ وہاں (سب) بیس رکعتیں ہی پڑھتے ہیں۔

(ترمذی ج: ۱: ۱۶۶)

حضرت امام احمد بن حنبل م ۲۴۱ھ کا مسلک:

امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہ (امام) احمد بن حنبلؒ کے نزدیک تراویح میں بیس رکعتیں مختار و پسندیدہ ہیں، امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ بھی اسی کے قائل ہیں

اور امام مالک فرماتے ہیں کہ چھتیس رکعتیں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہی امر قدیم بھی ہے اور انہوں نے اہل مدینہ کے فعل سے تعلق کیا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں اکٹھا کیا تو وہ لوگوں کو بیس رکعتیں پڑھاتے تھے۔

(المسئی لابن قدامہ ج ۲: ۲۰۲)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان:

☆ ”وصلوة التراویح سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وہی عشرون رکعة یجلس عقب کل رکعتین ویسلم

خمس ترویحات کل اربعة منها ترویحة“

نماز تراویح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے..... اور یہ بیس رکعتیں ہیں

رکعت کے بعد بیٹھے اور سلام پھیرے اس طرح پانچ ترویحے ہوں گے۔ ہر چار رکعتوں کے بعد ایک ترویحہ۔

تراویح کے بعد ایک ترویحہ۔

(غنیۃ الطالبین مترجم ۳۹۳، ۶)

امام ابو حامد الغزالی الشافعی متوفی ۵۰۵ھ کا فرمان:

☆ ”التراویح وہی عشرون رکعة و کیفیتہا مشہورۃ و

سنة مؤکدة“۔

تراویح بیس رکعتیں ہیں جن کا طریقہ مشہور و معروف ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہیں۔

(احیاء علوم الدین ج ۱: ۱۱۱)

غیر مقلدین کے امام تقی الدین ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی متوفی ۷۲۸ھ کا فرمان:

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ لوگوں (صحابہ تابعین

رمضان المبارک میں بیس رکعات تراویح اور تین وتر پڑھاتے تھے۔ لہذا بہت سارے علماء

اسی کو سنت قرار دیا ہے۔ کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیس رکعتیں حضرت ابی

مہاجرین رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں پڑھائی تھیں اور کسی نے انکار نہیں کیا۔

(فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۳: ۱۱۲)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار، اجماع امت اور اقوال ائمہ مجتہدین اور امت کے تقریباً تیرہ سو سالہ عمل کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ تراویح آٹھ رکعات ہی سنت ہیں، جس رکعات سنت نہیں ہیں، میں یا میں سے زیادہ رکعات متعین کرنے میں بدعت کا خوف ہے، بلکہ میں رکعات پڑھتا ہے ہی بدعت۔ چنانچہ

حکیم صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں:

”یہ بات مہر نیروز کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ رسول اللہ کی سنت پاک تو آٹھ رکعت تراویح ہی ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا سنت نہیں ہے بلکہ ناقص عبادت ہے۔“

(صلوٰۃ الرسول ۳۸۵)

یونس قریشی صاحب لکھتے ہیں:

’البتہ میں یا میں رکعت کی تعداد معین اور خاص کرنا درست نہیں کیونکہ اس عمل کے بدعت ہو جانے کا خوف ہے۔“

(دستورالمتقی ۱۴۲)

غیر مقلدین کے ڈاکٹر محمد بشیر لکھتے ہیں:

”ہمارے جن علماء نے آٹھ سے زیادہ کو بدعت کہا ہے وہ ان لوگوں کی تراویح کو کہا گیا ہے جو آٹھ سے زیادہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر پڑھتے ہیں اگر نفل سمجھ کر پڑھیں تو پھر ہمارا کوئی عالم ان پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتا“

(الجانان)

عبدالجلیل سامرووی صاحب اپنے ہم مشرب علماء پر برتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”بڑا تعجب تو مجھے یہ ہر علماء مدرسہ رحمانیہ کے مدرسین پر ہے کہ وہ باوجود ان باتوں واقف ہوتے ہوئے رسالہ محدث میں زیادہ آٹھ پر درست لکھتے ہیں اور نوافل قرار دے کر ہر اجز بھی تسلیم کرتے ہیں الی اللہ المستسکن..... رہا ۲۰ کو سنت عمری بدعت عمری کہنا اصلاً غلط ناقص مسوع ہے۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ۲۰ رکعت نہ ہی فعلی عمل سے وارد اور نہ ہی امر فاروق ثابت پھر زبردستی حضرت عمرؓ کے متھے تھوپنا کیا انصاف سے مراطل دور نہیں اور نہ ہی رسول کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم سے۔“

(فتاویٰ ستاریہ ج ۳: ۱۹)

ملاحظہ فرمائیے:

یہ ہے غیر مقلدین کا عمل بالحدیث کہ ان کے نزدیک بیس رکعات تراویح پڑھنا سنت کجا نہیں سنت سمجھ کر پڑھنا بدعت ہے، حالانکہ بیس رکعات تراویح خیر القرون میں خلفاء راشدین کے حکم سے پڑھی پڑھائی جاتی رہیں، خلفاء راشدین نے بیس پر موافقت فرمائی۔ عہد فاروقی میں رکعات پر اجماع ہوا جیسا کہ پیچھے نورا، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ، حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام احمد بن حنبلؒ میں رکعات تراویح پڑھتے پڑھاتے رہے اور ان ائمہ مجتہدین کے کروڑوں تبعین اور مقلدین جن میں جبال علم تقویٰ و طہارت اور اتباع سنت میں ممتاز مقام رکھنے والے اکابر علماء و اولیاء شامل ہیں سب تراویح میں رکعات ہی پڑھتے پڑھاتے رہے تقریباً ساڑھے تیرہ سو برس سے اب مسلک تراویح رکعات ہی پڑھ رہی ہے۔

غیر مقلدین کی غدیۃ الطالبین میں تحریف:

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ چونکہ حنبلی مسلک کے بزرگ ہیں،

لیے آپ بھی تراویح کے بیس رکعات ہونے کے قائل ہیں چنانچہ آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتب ”غنیۃ الطالبین“ میں یہی لکھا ہے کہ تراویح بیس رکعات ہیں۔ عرصہ سے یہ کتاب مترجم اور غیر مترجم دونوں طرح چھپ رہی ہے۔ دونوں میں مسئلہ موجود ہے، اس وقت ہمارے سامنے غیر الطالبین عربی اور عربی اردو مترجم دو مقامات کی گھمبی ہوئی موجود ہیں۔ ایک مکتبہ مصطفیٰ الباقی لکھی مصر کی اور دوسری مکتبہ تعمیر انسانیت اردو بازار لاہور کی دونوں میں یہ عبارت موجود ہے ملا فرمائیے:

”وہی عشرون رکعة یجلس عقب کل رکعتین ویسلم
فہی خمس ترویحات کل اربعة منها ترویحة وبنوی فی کل
رکعتین اصلی رکعتی الترایح المسنونة اذا کان فردا او اذا کان
اماما او ما موما ویستحب ان یقرأ“۔ (الخ)

(غنیۃ الطالبین ۳۹۶، طبع مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور، اولیہ

الطالبین ج ۲: ۱۶، طبع مکتبہ مصطفیٰ الباقی لکھی

ترجمہ:

اور تراویح کی بیس رکعتیں ہیں اور ہر دوسری رکعت میں بیٹھے اور سلام پھیرے گا۔
پانچ ترویحات ہیں ہر چار کا نام ترویح ہے اور ہر دو رکعت کے بعد نیت کرے کہ میں دو رکعت
(مسنون) تراویح کی نیت کرتا ہوں اگر تنہا پڑھے خواہ امام کے ساتھ پڑھے اور مستحب ہے کہ

(غنیۃ الطالبین مترجم طبع مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور)

کراچی کے غیر مقلدین نے غنیۃ الطالبین کا ترجمہ کر کے جب چھاپا تو اس میں

طرح کا تصرف کیا ایک تو یہ کہ انہوں نے اس میں تحریف کی اور عشرون (بیس) کو احدی لکھا
(گیارہ) بنا دیا کیونکہ یہ لوگ بیس تراویح کے قائل نہیں ہیں وترسیت گیارہ کے قائل ہیں۔

دوسرے انہوں نے اس کتاب میں خیانت کی کہ فہی خمس ترویحات

لے کر آؤ ماموہما تک ساری عبارت نکال دی، دو وجہ سے پہلی وجہ تو یہ کہ اس میں بیس رکعات کی صراحت تھی جو غیر مقلدین کے مسلک کے خلاف ہے دوسری وجہ یہ کہ اس میں زبان سے ترویج کی نیت کا تذکرہ ہے اور غیر مقلدین زبان سے نیت کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں۔

غیر مقلدین کی مطبوعہ عنیۃ الطالبین ملاحظہ فرمائیے:

”وہی احدی عشرۃ مع الوتر کعة مع الوتر یجلس

عقب کل رکعتین ویسلم یتحجب ان یقرأ۔ (الخ)

اور ترویج کی وتر سمیت گیارہ رکعتیں ہیں اور ہر دوسری رکعت میں بیٹھے اور سلام

پھیرے اور مستحجب ہے کہ“ (الخ)

(عنیۃ الطالبین ۵۹۱، مطبوعہ مکتبہ سعودیہ حدیث منزل

جنس روڈ کراچی تاریخ طبع ۳۰ دسمبر ۱۹۵۹)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آٹھ رکعات والی حدیث

اور غیر مقلدین کا اس پر عمل:

حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان المبارک میں کیسی ہوتی تھی۔

آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں

پڑھتے تھے، آپ چار رکعتیں پڑھتے نہ پوچھو کہ وہ کیسی حسین اور کتنی دراز ہوتی تھیں پھر چار رکعت

پڑھتے نہ پوچھو کہ وہ کیسی حسین اور کتنی دراز ہوتی تھیں۔ پھر آپ تین رکعات ادا فرماتے۔ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے

سو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔

(بخاری ج: ۱، ۱۵۳، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان)

وغیرہ ۲۶۹، باب فضل من قام رمضان (۵۰۴)

غیر مقلدین حضرت تراویح آٹھ رکعت سنت ثابت کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ بالا حدیث بڑے شد و د اور زور و شور سے پیش کرتے ہیں اور میں رکعت تراویح کی تمام احادیث و آثار کو اس کے مخالف بنا کر رو کر دیتے ہیں، ذیل میں ہم دو چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ اول یہ کہ اس حدیث مبارکہ کا تراویح سے تعلق بھی ہے یا نہیں؟ دوم یہ کہ غیر مقلدین خود بھی اس حدیث پر عامل ہیں یا نہیں؟

پہلی چیز:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا تعلق تراویح سے قطعاً نہیں ہے جس کی

بہت سی وجوہات ہیں۔

پہلی وجہ:

ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی اس حدیث سے تراویح مراد نہیں لیں ورنہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی نہ کوئی امام تو آٹھ رکعات تراویح کا قائل ہوتا حالانکہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام بھی آٹھ رکعات تراویح کا قائل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ترمذی شریف میں تراویح کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال ذکر کئے لیکن آٹھ رکعات کے متعلق کوئی قول ذکر کرنا تو درکنار اشارہ تک نہیں کیا۔

دوسری وجہ:

اکثر محدثین کرام مثلاً امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام مالک، امام عبدالرزاق، امام ابو عوانہ، امام بن خزیمہ، امام دارمی، امام ابو نصر مروزی، رحمہم اللہ وغیرہم نے اس حدیث کو اپنی اپنی احادیث کی کتابوں میں قیام اللیل (تہجد) کے تحت ذکر کیا ہے۔ باوجود یہ کہ ان محدثین نے اپنی کتابوں میں قیام رمضان (تراویح) کا باب بھی قائم کیا ہے۔ یہ اس کتاب کی کھلی

دلیل ہے کہ ان محدثین کے نزدیک اس حدیث سے مراد تہجد کی نماز ہے تراویح کی نہیں، بعض محدثین مثلاً امام بخاری، امام محمد وغیرہ نے اس حدیث کو قیام رمضان میں ذکر کیا ہے، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں کہ انہوں نے اس سے مراد تراویح ہی لی ہیں (اور جو تراویح کا ذکر ہے اس کے ذمہ تراویح کا قائل نہیں۔ بلکہ ان کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تہجد ہی تراویح کے نام سے پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی رمضان میں تہجد۔ تیسری وجہ:

تراویح اس نماز کو کہتے ہیں جو رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”سمیت الصلوة فی الجماعۃ فی لیالی رمضان التراويح“

رمضان کی راتوں میں نماز باجماعت کا نام تراویح ہے۔

(فتح الباری ج ۴: ۵۰)

۱۔ اور جس نماز کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں ہے وہ، وہ نماز ہے رمضان اور غیر رمضان بارہ مہینے پڑھی جاتی ہے ظاہر ہے کہ یہ تہجد ہی کی نماز ہو سکتی ہے نہ کہ تراویح کی کیونکہ تراویح تو صرف رمضان ہی میں پڑھی جاتی ہیں۔

ایک اہم نکتہ:

۲۔ پھر تراویح ایک سلام سے دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں جبکہ اس حدیث میں ایک سلام سے چار چار رکعتیں پڑھنے کا ذکر ہے۔

۳۔ اس حدیث میں گیارہ رکعات تنہا پڑھنے کا ذکر ہے نہ کہ جماعت کے ساتھ جبکہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین دن پڑھی تھیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھی تھیں۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق

تراویح سے نہیں تہجد سے ہے۔

چوتھی وجہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ کا سوال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز کی کیفیت سے متعلق تھا تعداد سے متعلق نہیں تھا۔ یعنی حضرت ابو سلمہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جو رات کو نماز پڑھتے تھے اس کی کیا کیفیت تھی؟ کیا انداز تھا؟ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی رات کی نماز میں معمول کی رکعات ذکر کر کے نماز کی کیفیت بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی عمدگی اور اچھائی کا کیا ذکر وہ تو پوچھو ہی مت، اگر حضرت ابو سلمہ کا سوال نماز کی رکعات کی تعداد کے متعلق ہوتا تو اول تو وہ لفظ گنم سے سوال کرتے کیونکہ عدد مقولہ گنم سے ہے نہ کہ گنیف سے دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں انکے سوال کے مطابق تعداد رکعات بتلا کر بس کر دیتیں آگے یہ فرماتیں کہ ان کے حسن اور درازی کا تو سوال ہی نہ کر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا ہی کہ ان کے حسن و درازی کا تو سوال ہی نہ کر یہ بتلا رہا ہے کہ ابو سلمہ کا سوال کیفیت ہی کے بارے میں تھا تعداد کے بارے میں نہیں۔

پانچویں وجہ:

بہت سے آثار صحیحہ سے ثابت ہے (جیسا کہ پیچھے گزرا) کہ خلفاء راشدین کے دور میں تراویح میں رکعات پر مٹی پڑھائی جاتی رہی اس زمانہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں اگر آپ کی مذکورہ حدیث میں تراویح کا ذکر ہوتا تو ناممکن تھا کہ وہ خاموشی سے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں تراویح پڑھتے پڑھاتے دیکھتی رہیں اور یہ نہ کہتیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آٹھ رکعات تراویح پڑھتے تھے۔ تم لوگ میں رکعات کیوں پڑھتے ہو۔ لیکن کسی بھی صحیح ضعیف حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کا جس رکعات پڑھنے والوں کو روکنا یا ان پر اعتراض کرنا ثابت نہیں۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں۔

دوسری چیز:

غیر مقلدین حضرات جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث سے آٹھ رکعات تراویح ثابت کرتے ہیں، بظہر انصاف دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، بل کرنا تو کجا سراسر اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ

۱۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز چار چار رکعات کر کے پڑھتے غیر مقلدین دو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں۔

۲۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اکیلے پڑھتے تھے کیونکہ اس حدیث میں آپ کے نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے پڑھانے کا نہیں، لیکن غیر مقلدین سارے مہینے یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

۳۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز گھر میں پڑھتے تھے (کیونکہ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، یہ سوال و جواب ظاہر ہے گھر ہی کی بات ہے کیونکہ حضر میں آپ کا سونا گھر ہی میں ہوتا تھا۔ لیکن غیر مقلدین سارے رمضان یہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں۔

۴۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، سو کر اٹھ کر وتر ادا فرماتے تھے لیکن غیر مقلدین حضرات تراویح کے فوراً بعد سونے سے پہلے ہی وتر ادا کر لیتے ہیں۔

۵۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وتر اکیلے ادا فرماتے تھے۔

لیکن غیر مقلدین حضرات جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

۶۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سارے سال وتر تین رکعات ایک سلام سے پڑھتے تھے، لیکن غیر مقلدی اکثر ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں اور جب کبھی تین پڑھتے بھی ہیں تو دو سلاموں سے پڑھتے ہیں۔

تہجد اور تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں اور دونوں میں بہت فرق ہے۔

موجود دور کے غیر مقلدین کے سامنے جب یہ ثابت کر دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں تہجد کا ذکر ہے تراویح کا نہیں، تو وہ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ تہجد اور تراویح میں کوئی فرق نہیں۔ انکو الگ الگ سمجھنا غلط ہے۔ جو نوافل رمضان سے پہلے تہجد کہلائے جاتے ہیں، انہیں کو رمضان میں تراویح کہا جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایک رات میں تراویح اور تہجد پڑھنا ثابت نہیں۔

چنانچہ غیر مقلدین کے شیخ الحدیث اسماعیل سلمی صاحب رقمطراز ہیں:

بعض لوگ تراویح اور تہجد کو الگ الگ دو نمازیں سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں ملتی۔“

(رسول اکرمؐ کی نماز ۹۸)

حکیم صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں:

”رسول اللہ نے لوگوں کو تراویح کی نماز مع وتر پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے تہجد ہرگز نہیں پڑھی اور نہ ہی وتر پڑھے معلوم ہوا کہ آپ کا قیام لیل (تہجد) رمضان میں قیام رمضان (تراویح) سے بدل گیا یعنی حضور جو تہجد اور وتر غیر رمضان نیند سے اٹھ کر پڑھتے تھے رمضان میں وہی تہجد اور وتر تراویح کے نام سے نیند سے قبل بعد عشاء پڑھ لیتے تھے۔“

اس پر آمادہ کیا تھا جو میں نے کی۔

(مسلم ج: ۱: ۲۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ نبی
الصلوٰۃ والسلام نے رمضان المبارک کی اس رات میں جو نماز صحابہ کرام کے ساتھ پڑھی تھی وہ
تھی اور وہ نماز جو گھر جا کر پڑھی تھی وہ اور تھی، صحابہ کرام کے ساتھ جو نماز پڑھی تھی وہ تراویح تھی
اس سے فارغ ہو کر حجرہ مبارکہ میں جا کر تنہا پڑھی تھی وہ تہجد تھی کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ
اپنے حجرہ مبارکہ ہی میں پڑھا کرتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

☆ ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللہ
فی حجرہ“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے حجرہ مبارکہ ہی میں نماز پڑھا کرتے
تھے۔

(بخاری ج: ۱: ۱)

حضرت قیس بن طلح فرماتے ہیں کہ (ہمارے والد) طلح بن علی رضی اللہ عنہ رمضان
المبارک میں ایک روز ہمارے گھر تشریف لائے اور شام کو ہمارے ہاں ہی روزہ افطار کیا، آپ
نے اس رات ہمیں نماز پڑھائی اور وتر بھی پڑھائے پھر آپ اپنی مسجد میں چلے گئے اور اپنے
ساتھیوں کو نماز پڑھائی حتیٰ کہ جب وتر باقی رہ گئے تو ایک صاحب کو آگے کر دیا اور فرمایا کہ اپنے
ساتھیوں کو وتر پڑھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک
رات میں دو دفعہ وتر پڑھنے جائز نہیں۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت طلح بن علی رضی اللہ عنہ نے پہلی نماز جو وتر سمیے
پڑھی تھی وہ تراویح تھی اور دوسری نماز جو آپ نے اپنی مسجد میں جا کر پڑھی تھی وہ تہجد تھی۔

(ابوداؤد ج: ۱: ۲۰۳)

حضرت امام بخاری بھی تراویح کے بعد تہجد پڑھتے تھے:

رمضان کی چاند رات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کے یہاں ان کے شاگرد و اصحاب اکٹھے ہو جاتے آپ انہیں نماز تراویح پڑھاتے ہر رکعت میں بیس آیتیں پڑھتے ایسے ہی ختم قرآن تک سلسلہ چلتا رہتا اور سحر کے وقت (تہجد میں) نصف سے تہائی قرآن تک پڑھتے اور سحر کی وقت ہر تین رات میں ایک قرآن ختم کرتے۔

(حدی الساری مقدمۃ فتح الباری ج: ۲: ۲۵۳)

نواب وحیدالزمان لکھتے ہیں:

”امام حاکم ابو عبد اللہ نے بسند روایت کیا ہے مقسم بن سعید سے کہ محمد بن اسماعیل بخاری جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تو لوگ ان کے پاس جمع ہوتے وہ نماز پڑھاتے اور ہر رکعت میں بیس آیتیں پڑھتے یہاں تک کہ قرآن کو ختم کرتے پھر سحر کو نصف سے لے کر تہائی قرآن تک پڑھتے اور تین راتوں میں ختم کرتے اور دن کو ایک ختم کرتے اور افطار کے وقت ختم ہوتا تھا۔“ (الخ)

(تیسرا الباری ج: ۱: ۴۹)

تقریباً یہی بات عبد السلام مبارکپوری صاحب نے سیرت البخاری ص ۷۸ پر لکھی

ہے۔

غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب دہلوی

بھی تراویح کے بعد تہجد پڑھا کرتے تھے:

میاں صاحب کے سوانح نگار فضل حسین بہاری لکھتے ہیں۔

”(میاں صاحب) لیالی رمضان المبارک میں دو ختم قرآن مجید کا بجا قیام ہر سال

سننے ایک تو نماز عشاء کے بعد تراویح میں جس کے امام تھے حافظ احمد عالم، نقیہ، محدث، جو آن کے شاگرد رشید تھے تین پارے روزانہ سناتے تریل و تجوید کے ساتھ دوسرا ختم سننے نماز تہجد میں جس کے امام ہوتے حافظ عبدالسلام سلمہ (آپ کے بڑے پوتے)“

(الحیاء بعد المماتہ ۱۳۸)

غیر مقلدین بتلائیں کہ اگر تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی ہیں اور ان کے بقول حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تراویح کے بعد تہجد نہیں پڑھی تو مذکورہ بالا ان احادیث کا کیا جواب ہوگا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تراویح پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اور نماز بھی پڑھی ہے، بالخصوص حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے تراویح کے بعد تہجد بھی پڑھی ہے نیز یہ بھی بتلائیں کہ اگر تراویح اور تہجد دونوں ایک چیز ہیں تو حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ حضرت امام مالک، حضرت امام بخاری ان کے علاوہ دیگر بزرگان دین اور غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب، تراویح کے بعد تہجد کیوں پڑھتے تھے کیا یہ سب غلط کام کرتے تھے؟ العیاذ باللہ۔

تراویح اور تہجد کے درمیان فرق:

(۱) تہجد کی مشروعیت قرآن کریم سے ہوئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

☆ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

اور رات کے ایک حصہ میں تہجد پڑھا کیجئے یہ خاص آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے۔

تراویح کی مشروعیت حدیث سے ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا اور فرمایا

☆ ”شَهْرُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسُنَّتَ لَكُمْ قِيَامَهُ“

رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے

اس کے قیام (تراویح) کو میں نے تمہارے لئے مسنون کیا ہے۔

(ابن ماجہ ۹۵)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہمیشہ اخیر رات میں پڑھا کرتے تھے چنانچہ حضرت
سروق فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا۔

☆ ”متی کان یقوم قالت کان یقوم اذا سمع الصارخ“

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس وقت اٹھا کرتے تھے آپ نے فرمایا جب کہ
مُرخ کی اذان سنتے تھے،

(بخاری ج ۱ ص ۱۵۲)

اس کے برعکس نماز تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، دیگر صحابہ کرام،
تابعین، تبع تابعین اور علماء امت نے ہمیشہ شروع رات میں پڑھی ہے۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو اہتمام کے ساتھ جماعت کثیرہ کے ساتھ
ادا فرمایا لیکن تہجد آپ ہمیشہ اکیلے پڑھا کرتے تھے ہاں اگر کوئی از خود شامل ہو جاتا تو
اس کی شرکت میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔

(۳) تراویح وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور تہجد وہ نماز ہے
جو سو کر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔

(۵) تراویح میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن سننا خلفاء راشدین کی سنت ہے لیکن تہجد میں
قرأت قرآن کی کوئی مقدار مقرر نہیں۔

(۶) تہجد کی وتر کے ساتھ کم از کم سات رکعات اور زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعات مسنون
ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی
رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا چار اور تین کے ساتھ، چھ اور تین
کے ساتھ دس اور تین کے ساتھ آپ کی وتر کی رکعتیں نہ سات سے کم ہوتی تھیں نہ تیر

(ابوداؤد ج: ۱، ۱۹۳، طحاوی ج: ۱، ۱۹۶)

اس روایت میں تہجد اور وتر دونوں پر وتر کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وتر کے علاوہ تہجد کی کبھی چار رکعتیں پڑھیں، کبھی چھ، کبھی آٹھ اور کبھی دس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی رکعات کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں حتیٰ طور پر متعین نہیں۔ اس کے برعکس تراویح کی کم از کم ہمیں رکعات مسنون ہیں۔

(۷) تراویح سال بھر میں صرف ایک مہینے پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن تہجد بارہ مہینے پڑھی جاتی ہے۔

(۸) تراویح کے بعد وتر کا جماعت کے ساتھ پڑھنا خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ لیکن اگر وہ تہجد کے بعد پڑھیں تو ان کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا صحیح نہیں۔

(۹) نماز تراویح دیگر نمازوں کی طرح اسلام کے ظاہری شعار میں داخل ہے۔ لیکن نماز تہجد اسلام کے ظاہری شعار میں داخل نہیں۔

(۱۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں تراویح پڑھنے والوں سے فرمایا۔

☆ ”والتی تئامنون عنها افضل من التي تقومون“

جس نماز کو سوتے رہ کر گزار دیتے ہو (تہجد) وہ اس نماز سے بہتر ہے جو پڑھ کر سوتے ہو (یعنی تراویح) اس سے بھی تہجد اور تراویح کا فرق واضح ہے

(بخاری ج: ۱ ص ۲۶۹)

غیر مقلدین کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری صاحب

کے نزدیک بھی تہجد اور تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں ایک نہیں:

ثناء اللہ امرتسری صاحب سے ایک سوال ہوا کہ

سوال: ”جو شخص رمضان المبارک میں عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے وہ پھر آخر رات

میں تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟

صحابہ ” پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کا وقت عی مج سے پہلے کا ہے۔ اول شب میں تہجد نہیں ہوتی۔“
(فتاویٰ ثنائیہ ج: ۱: ۴۳۱)

احناف حامی حدیث و سنت

جو نمازیں قضا ہو گئی ہوں بلا طہر یا کسی عذر

کی وجہ سے انکار ادا کرنا ضروری ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے۔

(مسلم ج: ۱: ۴۳۱)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر جس دن خندق کھودی جا رہی تھی سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی عصر نہیں پڑھی، ہم مقام بلمان میں پہنچ کر ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ہم نے بھی اس نماز کے لئے وضو کیا آپ نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی پھر مغرب اس کے بعد ادا فرمائی۔

(بخاری ج: ۱: ۸۳، مسلم ج: ۱: ۲۲۷)

حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ اپنے والد حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا غزوہ خندق کے دن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار نمازیں پڑھنے سے روک رکھا یہاں تک کہ رات کا اتنا حصہ چلا گیا جتنا اللہ نے چاہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی پھر اقامت کہی پس ظہر پڑھی پھر

اقامت کہی تو عصر پڑھی پھر اقامت کہی تو مغرب پڑھی پھر اقامت کہی تو عشاء پڑھی۔

(ترمذی ج ۱: ۴۳)

کیونکہ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں بندہ پر اللہ کا ایک قرض باقی رہے گا اور ظاہر ہے کہ

قرض ادا ہوگی کے بغیر ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا لہذا نماز بھی جب تک پڑھ نہ لے ذمہ سے ساقط نہیں

ہوگی ادا نہ پڑھے یا قضاء، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

☆ "فاقضوا لله فهو احق بالوفاء"

اللہ کا قرض ادا کرو وہ ادا ہوگی کا زیادہ حق دار ہے۔

(نسائی ج ۲: ۲)

عبدالرشاد فرماتے ہیں:

☆ "فدين الله احق ان يقضى"

اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اُسے ادا کیا جائے۔

(بخاری ج ۱: ۲۶۲)

فوت شدہ نماز کی قضاء کے ضروری ہونے پر اجماع امت بھی ہے چنانچہ

علامہ محمد بن عبدالرحمن شافعی لکھتے ہیں:

☆ "واتفقوا على وجوب قضاء الفوائت"

فقہاء نے فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے واجب ہونے پر اتفاق کیا ہے۔

(رحمۃ اللامۃ ۴۶)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث اور اجماع امت کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ جو نمازیں جان بوجھ کر نہ پڑھی ہوں ان کی قضا نہیں صرف توبہ و استغفار کافی ہے،

چنانچہ یونس دہلوی صاحب لکھتے ہیں:

”اگر کوئی دیدہ دانستہ نمازیں چھوڑ دے اور پھر ان کی قضا کرنا چاہے تو اس قسم کی

نمازوں کی قضا حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ ایسے آدمی کے لئے توبہ و استغفار کافی ہے۔“

(دستور اسلامی ۱۳۹)

”بلوغ کے بعد اگر نمازیں تھوڑی ہوں جو آسانی سے ادا ہو سکتی ہوں تو کر لی جائیں اگر

زیادہ مدت کی ہوں جن کو ادا کرنا مشکل ہو تو یہی کافی ہے۔“

(فتاویٰ الہدیٰ ج: ۱ ص: ۴۱۵)

غیر مقلدین کے شیخ الحدیث اسماعیل سلمی صاحب

ترک صلوٰۃ کی متعدد صورتیں بنا کر لکھتے ہیں:

”پہلی صورت جس میں کسی عذر کے بغیر سہل انگیزی سے نماز ترک ہوئی عدا ترک میں

شامل ہے اس کے لئے کوئی قضا نہیں، یہ چیز من ترک الصلوٰۃ متعمداً میں شامل ہے۔

اس کا توبہ نصوح کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔“

(رسول اکرم کی نماز ۱۱۵)

ملاحظہ فرمائیے:

احادیث صحیحہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کسی کی نماز فوت ہو جائے کسی عذر کی وجہ سے یا

بلا عذر اس کی قضا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی ادائیگی کا حکم فرما رہے ہیں اس پر

اجماع امت بھی ہے۔ لیکن غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب عمد افوت شدہ نمازوں کی قضاء نہیں ہے۔ صرف توبہ استغفار کافی ہے۔

احناف حامی حدیث و سنت

سجدة سہو واجب ہے اور وہ (قعدۃ اخیرہ میں) سلام پھیر

کر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد التحیات پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

فرمایا تم سے کسی کو جب اپنی نماز میں شک ہو جائے تو اسے چاہئے کہ گج کے لئے سوچ و چار کرے اور اس پر اپنی نماز چوری کرے پھر سلام پھیر کر دو سجدے کرے۔

(بخاری ج ۱: ۵۸)

حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اپنی

نماز میں شک ہو جائے تو اسے چاہئے کہ سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرے۔

(مسند احمد ج ۱: ۲۰۵، نسائی ج ۱: ۱۳۰، ابوداؤد ج ۱: ۱۳۸)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے

فرمایا ہر سہو کے لئے دو سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔

(ابوداؤد ج ۱: ۱۳۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام

پھیرا، پھر بیٹھے بیٹھے دو سجدے سہو کے پھر سلام پھیرا۔

(نسائی ج ۱: ۱۳۹)

حضرت عمرو بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) نبی علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے صحابہ کرام کو نماز پر حاکمی تو آپ کو سہو ہو گیا، آپ نے دو سجدے سہو کے پھر التحیات پڑھی

پھر سلام پھیرا۔

(ابوداؤد ج: ۱۳۹، ترمذی ج: ۱: ۹۰)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ سجدہ سو سلام پھیرنے سے پہلے

کرنا چاہئے اور سجدہ سو کے بعد تشهد بھی نہیں ہے۔

چنانچہ حکیم صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں:

”سجدہ سو کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تشهد، درود اور دُعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر

کہہ کر سجدے میں جائیں پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرہ سجدہ کریں اور پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز

سے فارغ ہوں حدیث مذکور میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سو کا حکم ہے اس لئے سو کے دو

سجدے سلام پھیرنے سے قبل کرنے چاہئیں۔“

(صلوٰۃ الرسول ۳۷۳)

مولوی خالد گرجا کی صاحب لکھتے ہیں:

”سو یعنی نماز میں بھول جانے سے دو سجدے نماز کے بعد سلام سے پہلے ادا کرنے ہوتے ہیں۔“

(صلوٰۃ النبی ۳۵)

مزید لکھتے ہیں:

”لیکن جو احناف میں رائج ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر پھر سو کے سجدے کرنے

کے بعد التحیات پڑھنا تو یہ سنت سے ثابت نہیں۔“

(صلوٰۃ النبی ۳۵۲)

ملاحظہ فرمائیے:

لیکن غیر مقلدین اس قدر احادیث کی موجودگی میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سجدہ سو

سلام سے پہلے ہی کرنا چاہئے اور سجدہ سو کے بعد التحیات نہیں پڑھنی چاہئے کہ سنت سے ثابت

نہیں۔ یہ ہے عمل بالحدیث کے مدعویداروں کا علم و عمل۔

کارئین کرام اب فیصلہ آپ کے سر ہے آپ فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت

ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

مقتدی کو اگر سہو ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا

جو شخص امام کے پیچھے ہے اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، اگر امام کو سہو ہو جائے تو اس پر اور جو

اس کے پیچھے ہے اس پر سجدہ سہو ہے و اگر مقتدی کو سہو ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو نہیں

ہے اس کو امام کافی ہے۔

(دارقطنی ج: 1 ص: 344)

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم امام کے پیچھے بھول جاؤ اور امام

مخفوظ رہے تو تم پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے اور اگر امام بھول جائے اور تم محفوظ رہو تو تم پر

بھی سجدہ سہو ہوگا اور اگر امام سجدہ نہ کرے تو تم بھی سجدہ نہ کرو اور اسی طرح اگر سارے

مقتدی بھی بھول جائیں تو کسی پر بھی سجدہ سہو نہیں ہوگا اور اگر امام بھول جائے تو سب

پر ہوگا۔

(کتاب الآثار للامام ابی حنیفہ بروایت اللامام ابی یوسف ص ۳۷)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

احادیث کے خلاف غیر مقلدین کے نواب صاحب کا کہنا ہے کہ اگر مقتدی کو نماز میں سہو ہو جائے تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہے اور اس سے سجدہ سہو کے ساقط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

چنانچہ نواب مدتی حسن خان صاحب لکھتے ہیں:

”واگر خود مؤخر اور پس امام سہو ٹپس خود گرد و بروی سجدہ سہا بنا بر دخول در اس سجدہ واجب باشد بوجہ تناول اولہ سجدہ از برائے سہو تم دو لیلی بر سقوط سجدہ خود سجدہ خوش بکسر و مہراہ امام نیامدہ“۔

اگر مقتدی کو امام کے پیچھے خود اپنی طرف سے سہو ہو جائے، تو اس پر سجدہ سہو اس سہو میں داخل ہونے کی بناء پر واجب ہوگا۔ کیونکہ سجدہ سہو کے دلائل مقتدی کو بھی شامل ہیں اور مقتدی سے امام کی مہراہی میں خود اپنے سہو سے سجدہ سہو کے ساقط ہونے کی کوئی دلیل نہیں آئی۔

(بدور الاحلۃ ۶۸)

ملاحظہ فرمائیے:

حدیث و آثار اور اجماع امت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مقتدی پر کو اپنے سہو سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ لیکن غیر مقلدین کے نواب صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں صاحب اس پر سجدہ سہو لازم ہے اور اس سے سجدہ سہو ساقط ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔

احناف حامی حدیث و سنت

سجدہ تلاوت کے لئے وضو شرط ہے یہ وضو سجدہ تلاوت جائز نہیں

☆ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل

صلوة بغير طهور،

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ

(آپ نے فرمایا) کوئی نماز بغير طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔

(ترمذی ج: ۱: ۱۳)

☆ عن نافع عن عمر انه قال لا يسجد الرجل (سجدة

التلاوة) الا وهو طاهر،

حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے

فرمایا کوئی شخص بھی سجدہ تلاوت طہارت کے بغير نہ کرے۔

(بیہقی ج: ۲: ۲۷۵)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان دونوں احادیث مبارکہ کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ سجدہ تلاوت وضو کے

بغیر بھی جائز ہے۔

چنانچہ غیر مقلدین کے شیخ الحدیث پوس دہلوی صاحب لکھتے ہیں:

”یہ سجدہ وضو کے ساتھ کرنا بہتر ہے لیکن بے وضو بھی جائز اور درست ہے۔“

(دستورالعملی ۱۳۳)

نواب وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں:

”وتجوز علی غیر وضوء وتستحب الطہارة لها“

اور سجدہ تلاوت بغیر وضوء کے بھی جائز ہے البتہ اس کے لئے طہارت مستحب ہے۔

(نزل الامار ج ۱: ۱۳۶)

احناف حامی حدیث و سنت

کتنی مسافت پر قصر کرنا چاہئے

☆ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسافر المرأة ثلثة ايام الا مع ذی محرم،

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہ سفر کرے عورت تین دن کا محرم کے بغیر۔

(بخاری ج: ۱: ۱۳۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی
بھی عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن کا سفر کرے اپنے محرم کے بغیر۔

(مسلم ج: ۱: ۲۳۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حلال نہیں ہے کسی بھی ایسی عورت کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ تین دن
یا تین دن سے زیادہ مسافت کا سفر کرے مگر اس حال میں کہ اس کا باپ یا بیٹا، یا شوہر یا بھائی یا کوئی
محرم اس کے ساتھ ہو۔

(مسلم ج: ۱: ۲۳۳)

☆ عن عمر قال تقصر الصلوة فی مسیرة ثلث لیلال،

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین رات کی مسافت (کے سفر) میں نماز قصر کی
جائے۔

(کنز العمال ج: ۸: ۲۳۳)

☆ وکان ابن عمرو و ابن عباس یقصران و یفطران فی اربعة

یوم و هو ستة عشر فرسخا،

(حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے تعلیقا ذکر کیا ہے کہ) حضرت عبداللہ بن عمر اور

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نماز میں قصر کرتے تھے اور روزہ افطار کرتے تھے

۳۴ یوم پر جو ۱۲ فرسخ کے ہوتے ہیں۔

(بخاری ج: ۱: ۱۴۷)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ مسافت قصر سومیل یا نو میل

چنانچہ شامہ اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں:

”مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے نکل کر کسی دوسری بستی کو جائے اس کی کم

کم حد تک حدیث شریف تین میل ہے۔“

(فتاویٰ ثنائیہ ج: ۱ ص: ۱۳۰)

غیر مقلدین کے معنی عبدالستار صاحب لکھتے ہیں:

”نماز قصر تین یا نو میل پر کر سکتا ہے۔“

(فتاویٰ ستاریہ ج: ۳ ص: ۵۷)

غیر مقلدین کے شیخ الحدیث اسماعیل سنی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ نو میل پر قصر درست ہے۔“

(رسول اکرم کی نماز ص: ۱۰۶)

ملاحظہ فرمائیے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن

عباس رضی اللہ عنہم کے افعال و اقوال سے مسافت قصر کی تحدید ۴ برد = ۱۶ فرسخ = ۲۸ میل ثابت ہے

رہی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے کم مسافت کے سفر پر قصر سے منع بھی فرما رہے ہیں

لیکن غیر مقلدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کے باوجود اور صحابہ و تابعین کے فیصلہ کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب مسافرتین میل یا نو میل ہے اور زیادہ صحیح نو میل ہے۔

قارئین غور فرمائیے اور ذرا سوچئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صحابہ و تابعین وغیرہ کی بات زیادہ صحیح ہے یا غیر مقلدین کی؟ اور پھر فیصلہ فرمائیے کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

مسافر جب تک کسی جگہ پندرہ دن کی اقامت کی

نیت نہ کر لے اس وقت تک قصر کرے گا

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب پندرہ دن

ٹھہرنے کا نیت ارادہ فرمالتے تو گھوڑے سے زین اتار دیتے اور چار رکعت ادا کرتے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲: ۱۵۵)

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم

سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب تم پندرہ دن اقامت کا ارادہ کر لو تو پھر نماز پورے

پڑھو۔

(جامع المسانید ج ۱: ۴۰۴)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ چار روز کی اقامت کی نیت کر لینے سے

قصر ختم ہو جائے گا اور پوری نماز پڑھے گا۔

چنانچہ امام اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں:

”محمدین کے نزدیک بحکم بحدیث تین روز کی نیت اقامت کرنے پر قصر کرنا جائز ہے

چار روز کی کرے گا تو قصر جائز نہ ہے گا۔“

(فتاویٰ ثنائیہ ج ۱: ۶۰۱)

ملاحظہ فرمائیے:

مذکورہ آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ چھ دن کی اقامت کی نیت کرنے سے قصر ختم ہوتا

ہے۔ لیکن غیر مقلدین کے نزدیک چار دن کی اقامت کی نیت سے قصر ختم ہو جاتا ہے اور نماز پوری

پڑھنی پڑتی ہے۔ گارڈین فیصلہ فرمائیں یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ

اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔

(بخاری ج: ۱: ۱۲۳)

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ایسا اپنے والد سلمہ بن اکوع رضی

اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ ادا کرتے جب کہ سورج ڈھل جاتا پھر ہم سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے۔

(مسلم ج: ۱: ۳۸۳)

حضرت ابوالقیس عمرو بن مروان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا

کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے جب کہ سورج ڈھل جاتا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۴: ۱۰۸)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا وقت سورج ڈھلنے کے وقت ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۴: ۱۰۸)

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۴: ۱۰۹)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے بھی جائز ہے اور غیر مقلدین کے فقیہ نواب وحید الزماں کا کہنا ہے کہ جمعہ کا وقت تو سورج کے نيزہ بھر بلند ہو جانے سے ہی شروع ہو جاتا ہے،

چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں:

’وقد ورد ما يدل على انها تجزئ قبل الزوال‘۔

الخ

اور تحقیق ایسی حدیث بھی آئی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے جائز ہے،

(الروضۃ الندیۃ ج: ۱ ص: ۱۳۷)

(کچھ آگے چل کر آپ نے جمعہ کے زوال سے پہلے جائز ہونے کو حق قرار دیا ہے۔)

نواب نور الحسن خاں صاحب لکھتے ہیں:

نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو نماز ظہر کا ہے البتہ زوال سے پہلے بھی جائز ہے۔

(النهج المقبول فی شرائع الرسول ص: ۱۸)

نواب وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں:

جمعہ کا وقت اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب کہ سورج ایک نيزہ کے برابر بلند ہو جائے (یعنی عید کی نماز کے اول وقت سے اور ظہر کے اخیر وقت تک رہتا ہے۔)

(نزل الامار ج: ۱ ص: ۱۵۲)

ملاحظہ فرمائیے:

صحیح احادیث و آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ جمعہ کی نماز کا وقت زوال کے بعد ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ زوال سے پہلے جمعہ جائز نہیں، لیکن غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب حق یہ ہے کہ زوال سے پہلے بھی جائز ہے اور آفرین ہے نواب وحید الزماں صاحب پر جن کے نزدیک جمعہ کا وقت صبح اشراق کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔
تاریخ کرام آپ فیصلہ فرمائیں یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

جمعہ کی دو اذانیں مستنون ہیں

حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیسری اذان (جمعہ کی پہلی اذان) کا حکم دیا چنانچہ زوراء پر وہ اذان کہی گئی اور پھر یہ ایک مستقل سنت بن گئی۔

(بخاری ج: ۱۲۵، ابوداؤد ج: ۱۵۵، نسائی ج: ۱۵۶)

حدیث مذکورہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں سے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ کی ایک ہی اذان ہوتی تھی جو امام کے سامنے منبر کے پاس دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ کے حکم سے ایک اذان اور دی جانے لگی، یہ اذان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں دی جاتی تھی، صحابہ کرام میں سے کسی بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، چنانچہ یہ اذان باجماع صحابہ راجح ہو گئی اور ہر زمانے میں اس پر عمل ہوتا رہا، کسی امام اور کسی فقیر و مجتہد نے اس سے اختلاف نہیں کیا اور اختلاف کر بھی کیسے سکتے تھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حکم ہے کہ میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، یہ اذان چونکہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم سے جاری ہوئی ہے اس لئے یہ ان کی سنت ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کے مطابق اس پر عمل ضروری ہے۔ پہلے یہ اذان زوراء پر دی جاتی تھی بعد میں مسجد میں دی جانے لگی، آج بھی تمام اسلامی ممالک میں یہ اذان مسجد ہی میں دی جا رہی ہے، حج پر جانے والے خوش نصیب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں یہ اذان مسجد حرام کے اعدا اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعدا کی جاتی ہے۔

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

حدیث مبارک، اجماع امت، تعامل و توازن امت کے خلاف، جو غیر مقلدین میں رکعت تراویح کو بدعت قرار دیتے تھے انہوں نے جمعہ کی اس اذان کو بھی بدعت قرار دیا، ان غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ یہ اذان چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس لئے یہ سنت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین یہ اذان نہیں دیتے بلکہ اس کے مسجد میں دیئے جانے بدعت قرار دیتے ہوئے اس سے روکتے ہیں۔

چنانچہ مولوی محمد صاحب جوٹا گرضی لکھتے ہیں:

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور آپ کے بعد کے دو خلیفوں کے زمانہ میں تو اس دوسری اذان کا وجود بھی نہ تھا ہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایجاد ہوئی جو وقت معلوم کرنے کے لئے زوراء ہزار کی بلند جگہ کہلوانی جاتی تھی نہ کہ مسجد میں پس ہمارے زمانے میں مسجد میں جو دو اذانیں ہوتی ہیں وہ صرف بدعت ہیں اور کسی طرح جائز نہیں۔“

(فتاویٰ ستاریہ ج ۳: ۵۰)

مولوی عبید اللہ صاحب مدرس مدرسہ سید بید یہ لکھتے ہیں:

”جمعہ کی نماز کے واسطے مسجد میں ایک ہی اذان کا ثبوت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دوسری اذان خارج عن المسجد ثابت ہے پس اسی اذان پر اختصار کرنا چاہئے اور دوسری اذان نہ کہنا چاہئے۔“

(فتاویٰ ستاریہ ج ۳: ۵۰)

مولوی عبید الرحمن صاحب مدرس مدرسہ میاں صاحب دہلوی رقمطراز ہیں:

”اب مسجد میں دو اذانیں کہنا بدعت ہے۔“ (الخ)

(فتاویٰ ستاریہ ج ۳: ۵۰)

غیر مقلدین کے ترجمان رسالہ "الاعتصام" کا ایک فتویٰ ملاحظہ فرمائیں:

"جمعہ کے روز ایک اذان کا خطبہ کے وقت ہونا مسنون ہے دو اذان کی ضرورت نہیں

..... لہذا اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے۔"

(فتاویٰ علماء حدیث ج ۱۷۹:۳)

جماعت فریاد اللہ حدیث کے امام اول عبدالوہاب صاحب

صدی کے سوانح نگار ابو محمد میانوالی لکھتے ہیں:

"مساجد احناف والحدیث میں جمعہ کی دو اذانیں ہوا کرتی تھیں۔ جیسا کہ آج کل

احناف کے ہاں مروج ہے، مولانا موصوف عبدالوہاب صاحب ناقل) نے پہلی اذان جو مسجد میں

خطبہ سے گھنٹہ آدھ گھنٹہ پہلے ہوتی تھی اسے ثقہ دلائل سے بدعت ثابت کر کے موقوف کا فتویٰ صادر

فرمایا اور دوسری اذان عند جلوس الامام علی العمیر کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیا آج اکثر مساجد الحدیث

میں اس طرح نبوی پر عمل ہو رہا ہے۔"

(مجموعہ مسائل مکمل نماز و ہدایہ النبی ۲۱)

ملاحظہ فرمائیے:

جمعہ کی پہلی اذان جو ظہر راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے جاری ہوئی،

جس پر تمام صحابہ کرام نے اجماع کیا، جو چودہ صدیوں سے تمام ممالک اسلامیہ میں بلا تغیر و

تبدیل جاری ہے جس سے کسی امام اور کسی فقیر و مجتہد نے اختلاف نہیں کیا آج وہ اذان مسجد میں ہونے کی

وجہ سے غیر مقلدین کے دور میں بدعت ہو گئی اگر خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا عمل بھی بدعت

ہے، اور جس عمل پر ساری امت کا توارث و تعامل ہے وہ بھی بدعت ہے، تو پھر غیر مقلدین بتلائیں

کہ سنت کونسا عمل ہوگا؟ نیز اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چودہ صدیوں سے ساری امت بدعت پر عامل

رہی اور آج بھی حرمین شریفین کے ائمہ و خدام اس اذان کو مسجد میں کہلوا کر بدعت کا ارتکاب کر

رہے ہیں؟

کارنمین کرام یہ ہے غیر مقلدین کا عمل بالحدیث۔

احناف حامی حدیث و سنت

خطبہ جمعہ کے درمیان نماز پڑھنا اور بات چیت کرنا مکروہ ہے

حضرت سلمان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو

مغص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس حد تک ہو سکے صفائی کرے، پھر تیل لگائے یا خوشبو ہو تو وہ

لگائے پھر جمعہ کے لئے جائے تو دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھے پھر جہنی نماز اس کیلئے مقدر ہے

پڑھے، پھر جب امام خطبہ کے لئے نکل آئے تو خاموش رہے تو ایسے مغص کے اس جمعہ سے اس

جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

(بخاری ج ۱۳: ۱۳۳)

حضرت عطاء خراسانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے تھے کہ جب مسلمان جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد آئے اس

طرح سے کہ کسی کو ایذا نہ دے، پھر اگر دیکھے کہ امام ابھی (خطبہ کے لئے) نہیں نکلا تو جہنی چاہے

نماز پڑھتا رہے، ماؤرا اگر دیکھے کہ امام نکل آیا ہے تو بیٹھ جائے اور خاموشی سے خطبہ سننے لگے یہاں

تک کہ امام خطبہ و نماز سے فارغ ہو جائے تو اس جمعہ کے اس کے سارے گناہ معاف نہ ہوئے تو

دوسرے جمعہ کے لئے یہ نکارہ جائے گا۔

(مسند احمد ج ۵: ۷۵)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اگر تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہ اس حال میں کہ امام خطبہ پڑھ رہا تھا تو تم

نے لغو بیکار کام لیا۔

(بخاری ج ۱۳: ۱۳۷)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ دورانِ خطبہ آنے والوں کو نماز پڑھنی جائز ہے بلکہ دو رکعتیں پڑھنی تو ضروری ہیں۔

چنانچہ پوسٹر کی صاحب لکھتے ہیں:

”انشاء خطبہ میں جو لوگ آئیں انہیں ہلکی سی دو رکعتیں بیٹھنے سے بہتر پڑھ لینی ضروری

ہیں۔“

(دستور العملی ۱۶۳)

یہ مسئلہ تمام غیر مقلدین کا مشفقہ ہے جو ان کی فتوؤں کی کتابوں میں درج ہے۔

ملاحظہ فرمائیے:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خطبہ کے دوران خاموش رہنے کا حکم دے رہے ہیں حتیٰ کہ کسی

دوسرے کو ”خاموش رہ“ کہنے سے بھی منع فرما رہے ہیں جو کہ امر بالمعروف ہے، نیز آپ دوران

خطبہ نماز پڑھنے اور کلام کرنے سے روک رہے ہیں۔

لیکن اس سب سے قطع نظر غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ خطبہ کے دوران آنے والے شخص کو

دو رکعتیں ضرور پڑھنی چاہئیں۔

قارئین محترم فیصلہ فرمائیے یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

کسی دن عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو اس دن جمعہ کی نماز ساقط نہیں ہوتی اس کا پڑھنا فرض ہی رہتا ہے

ابو عبید رحمۃ اللہ کہتے ہیں پھر میں عید کی نماز کے لئے حضرت عثمان بن عفان رضی

عنه کے ساتھ حاضر ہوا یہ اتفاق سے جمعہ کا دن تھا آپ نے بھی خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی پھر

دیا فرمایا لوگو یہ ایسا دن ہے جس میں تمہارے لئے دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اہل عروالی میں

جمعہ کا انتظار کرنا چاہیے وہ انتظار کرے اور جو واپس جانا چاہیے میری طرف سے آئے اجازت

۴-

(بخاری ج ۲: ۸۳۵، مؤطا امام مالک

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام عیدین

جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور هل انت حدیث الغاف

پڑھتے تھے بسا اوقات عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے تو بھی آپ دونوں نمازوں میں

سورئیں پڑھتے تھے۔

(ترمذی ج ۱: ۱۱۹، نسائی ج ۱: ۸۱)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

احادیث مبارکہ اور اقوال محدثین کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ جس دن عید اور جمعہ اکتھے ہو جائیں اس دن جمعہ کی نماز کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور جمعہ کی نماز میں رخصت ہوتی ہے چاہے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔

میاں نذیر حسین صاحب سے ایک سوال ہوا کہ:

”اگر اتفاق سے عید و جمعہ دونوں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں تو اس میں جمعہ کا پڑھنا رخصت ہے یا نہیں۔ زید ایسے دنوں میں جمعہ نہیں ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک سنت مردہ کو زندہ کرتا ہوں یہ کہنا کیسا ہے؟“

اس سوال کے جواب میں آپ کے شاگرد مولوی عبدالرحیم صاحب لکھتے ہیں:

”جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جائیں تو اس دن اختیار ہے جس کا جی چاہے جمعہ پڑھے اور جس کا جی نہ چاہے نہ پڑھے اور ایسے دنوں میں زید جو نماز ادا نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہوں سو اس کا یہ کہنا اچھا ہے۔“

(فتاویٰ نذیریہ ج: ۱ ص: ۵۷۳)

نواب نور الحسن صاحب لکھتے ہیں:

اور جب جمعہ اور عید ایک ہی دن اکتھے ہو جائیں تو جمعہ میں رخصت ہوگی اور ظاہر یہ

ہے کہ یہ رخصت تمام لوگوں اور امام کے لئے عام ہے۔

(عرف الجاری ۲۳)

نواب وحیدالزمان صاحب نظر از ہیں:

اور جمعہ کی عید کے دن رخصت ہے۔ شہر والوں اور غیر شہر والوں سب کے لئے اگر چاہیں تو عید اور جمعہ دونوں پڑھ لیں، چاہیں تو صرف عید پڑھ لیں اور جمعہ نہ پڑھیں البتہ ظہر کے ساقط ہونے میں اختلاف ہے حق بات یہ ہے کہ اس دن ظہر نہ پڑھنا بھی جائز ہے۔

(نزل الابرار ج: 1 ص: 155)

ملاحظہ فرمائیے:

جمعہ کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے جس میں کسی دن کی کوئی تخصیص نہیں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بلا عذر جمعہ چھوڑنے پر سخت وعید بیان فرماتے ہیں، آپ کے زمانے میں اگر جمعہ عید ایک دن اکتھے ہوتے تھے تو آپ جمعہ اور عید دونوں پڑھتے تھے، البتہ جن پر جمعہ فرض ہی نہیں (گاؤں دیہات والے) انہیں آپ جانے کی اجازت دے دیتے تھے، شہر والے سب آپ کے ساتھ جمعہ اور عید دونوں پڑھتے تھے۔

لیکن غیر مقلدین اس سب سے قطع نظر کر کے جمعہ کی نماز کو رخصت قرار دیتے ہیں جس کا مطلب ہے کوئی پڑھ لے تو بھی ٹھیک نہ پڑھے تو بھی ٹھیک بلکہ ان کے نزدیک اس دن جمعہ نہ پڑھنا مردہ سنت کو زندہ کرنا ہے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

قارئین محترم قرآن کریم اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فعل کے مقابلہ میں اپنی مرضی اور رائے پر عمل کرنا یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

احناف حامی حدیث و سنت

نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین

کرنا چاہئے باقی میں نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز

جنازہ پڑھتے تھے تو پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے

تھے

(ترمذی ج ۶: ۴۰۶، دارقطنی ج ۳: ۷۵، تہذیبی ج ۳: ۱۳۸)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے

(دارقطنی ج ۳: ۷۵)

حضرت ولید بن عبداللہ کرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے

وہ جب نماز جنازہ پڑھتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر (پہلی) تکبیر کہتے تھے پھر باقی تکبیروں میں رفع

یدین نہیں کرتے تھے اور آپ چار تکبیریں کہتے تھے

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳: ۲۹۶)

غیر مقلدین باغی حدیث و سنت

لیکن:

ان احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کے نزدیک نماز جنازہ میں ہر گھیر کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہیے، ان کے نزدیک نہ صرف یہ کہ ہر گھیر کے ساتھ رفع یدین جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔

چنانچہ مولوی عبید اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں:

”تکبیرات جنازہ کے ساتھ رفع یدین کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع قول یا فعلی یا تقریری حدیث موجود نہیں ہے البتہ بعض صحابہ سے ضرور ثابت ہے اس موقوف روایت و نیز بعض ضعیف احادیث کی رو سے تکبیرات جنازہ کے ساتھ رفع یدین کرنا جائز ہے۔ بدعت یا ممنوع نہیں۔“

(فتاویٰ ثنائیہ ج ۲: ۵۰۳)

شیخ الاسلام ترمذی صاحب رقمطراز ہیں:

”جنازہ میں ہر گھیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔“

(فتاویٰ ثنائیہ ج ۲: ۵۰۳)

ملاحظہ فرمائیے:

لیکن غیر مقلدین بجائے اس کے کہ نماز جنازہ کی ہر گھیر میں ترک رفع کے قائل ہوتے وہ ہر گھیر میں رفع یدین کرنے کو مستحب قرار دے رہے ہیں۔
تاریخ فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

فکر غیر مقلدین

مشہور ہے کہ کسی شیعہ نے اپنے شیعہ ڈاکر سے پوچھا یہ تو بتلائیے ہمارا مذہب کیا ہے؟ ڈاکر نے جواب دیا کہ اہل سنت جو کریں اس کا الٹ کرنا ہمارا مذہب ہے۔ شاید غیر مقلدین نے بھی اسی روش کو اپنالیا ہے اور ہر اس مسئلہ کی مخالفت کرنا جہاد سمجھنے لگے ہیں جو اہل سنت کے ہاں مفتی بہا ہے اور اہل سنت کا اس پر عمل ہے۔

خلا:

- ۱۔ یہ لوگ گدی پر سج کو بلا وجہ بدعت کہتے ہیں حالانکہ گدی پر سج احادیث سے ثابت ہے۔
- ۲۔ عام نائٹن اور سوتی جرابوں پر لوگوں کو دکھلا کر سج کرتے ہیں حالانکہ یہ کسی صحیح و صریح حدیث سے ثابت نہیں۔
- ۳۔ دوران نماز زبردستی پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں حالانکہ کسی بھی مرفوع حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں۔
- ۴۔ چیخ کر آمین کہنے کو سنت سمجھتے ہیں حالانکہ شریعت میں چیخنا منع آیا ہے بالخصوص مسجد میں۔
- ۵۔ عورت و مرد کی نماز میں فرق کو بدعت کہہ کر مٹانا کارِ ثواب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ متعدد احادیث میں فرق موجود ہے۔

۶۔ عورتوں کے جمعہ و عیدین کے لئے میدان اور مساجد میں آنے پر زور دیتے ہیں۔

حالانکہ صحابہ و تابعین زمانہ کی تہہ ملی کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے تھے۔

۷۔ آٹھ رکعت تراویح کی ترویج و تبلیغ کو جہاد کہتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ و تابعین میں (۲۰)

رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی (۲۰) رکعات سے کم تراویح کا قائل نہیں۔

۸۔ عیدین کی نماز میں بارہ تکبیروں کو ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ یہ کسی صحیح مرفوع

حدیث سے ثابت نہیں، جب کہ چھ تکبیریں کہنا صحیح آثار سے ثابت ہے۔

۹۔ فجر کی رہ جانے والی سنتوں کو فجر کی نماز کے فوراً بعد ادا کر لینے پر زور دیتے ہیں حالانکہ

متعدد احادیث میں اس سے ممانعت آئی ہے۔

۱۰۔ رکوع میں جاتے اٹھتے رفع یدین نہ کرنے سے نماز کو ناقص بلکہ فاسد تک کہہ دیتے ہیں

حالانکہ نہ یہ کسی حدیث میں ہے اور نہ ہی اہل سنت میں سے کسی امام کا یہ مسلک ہے۔

مآخذ و مراجع

۱۔	القرآن الکریم	
۲۔	صحیح البخاری:	ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری رحمۃ اللہ علیہ۔
۳۔	صحیح مسلم:	ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشیری النیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ۔
۴۔	سنن ابی داؤد:	ابوداؤد سلیمان بن اشعث البخستانی رحمۃ اللہ علیہ۔
۵۔	سنن نسائی:	ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی رحمۃ اللہ علیہ۔
۶۔	سنن ابن ماجہ:	ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ۔
۷۔	جامع ترمذی:	محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔
۸۔	جاء الحق:	مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
۹۔	دستورالمتعلیٰ فی احکام النبی:	محمد یونس دہلوی۔ (قدیمی کتب خانہ کراچی)
۱۰۔	رحمۃ الائمۃ فی اختلاف الائمۃ:	ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن الشافعی (مکتبہ امدادیہ)۔
۱۱۔	رسول اکرم کی نماز:	محمد اسماعیل السلفی، اسلامک پبلشنگ ہاؤس۔
۱۲۔	الروضة النندیہ شرح الدرر البھیة:	سید صدیق حسن خان نواب۔ دار نشر الکتب الاسلامیہ۔
۱۳۔	الحیات بعد الممات:	فضل حسین بہاری۔ المکتبۃ الاثریہ سائیکل پبل۔

۱۳۔	الخطبة فی ذکر الصحاح الستة:	سید صدیق حسن خان نواب۔ اسلام آباد۔
۱۵۔	جامع المسانید:	ابوالمؤید محمد بن محمود الخوارزمی رحمۃ اللہ علیہ۔
۱۶۔	تیسر الباری ترجمہ و شرح صحیح البخاری:	وحید الزماں حیدرآباد۔ نعمانی کتب خانہ۔
۱۷۔	آثار السنن:	محمد بن علی الیموی رحمۃ اللہ علیہ۔
۱۸۔	اثبات آئین بالجہد (مشمولہ استیصال التقليد):	مولوی نور حسین گرجاگئی۔
۱۹۔	اختلاف امت کالیہ:	حکیم فیض عالم صدیقی۔
۲۰۔	اہل حدیث کے دس مسئلے:	ابو یحییٰ امام خان نوشہروی۔
۲۱۔	احیاء علوم الدین:	ابو حامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔
۲۲۔	بدلیہ الجتہد ونہایہ المقتصد:	ابوالولید محمد بن احمد محمد بن احمد بن رشید القرطبی المالکی۔
۲۳۔	بدور اللاحلہ من ربط المسائل بالادلہ:	سید صدیق حسن خان نواب۔
۲۴۔	تحفۃ الاحوذی:	عبدالرحمن مبارک پوری۔
۲۵۔	حاشیۃ الطحاوی علی مرانی الفلاح:	احمد بن محمد بن اسماعیل الطحاوی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ۔
۲۶۔	سیر اعلام النبلاء:	ابوعبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔
۲۷۔	سیرت البخاری:	عبدالسلام مبارک پوری۔

۲۸۔	شعب الایمان:	ابوبکر احمد بن الحسین البہتقی رحمۃ اللہ علیہ۔
۲۹۔	صدیقہ کائنات:	حکیم فیض عالم صدیقی۔
۳۰۔	صلوۃ الرسول:	حکیم صادق سیالکوٹی
۳۱۔	صلوۃ النبی:	خالد گرجاگھی۔
۳۲۔	غنیۃ الطالبین مترجم اردو عربی:	الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ۔
۳۳۔	فتاویٰ اہل حدیث:	حافظ عبداللہ روپڑی۔
۳۴۔	فتاویٰ برکاتیہ:	ابوالبرکات احمد۔
۳۵۔	فتاویٰ ثنائیہ:	ثناء اللہ امرتسری۔
۳۶۔	فتاویٰ ستاریہ:	ابومحمد عبدالستار دہلوی۔
۳۷۔	فتاویٰ علماء حدیث:	ابوالحسنات علی محمد سعیدی۔
۳۸۔	فتاویٰ قاضی خان:	فخر الدین حسن بن منصور الحنفی رحمۃ اللہ علیہ۔
۳۹۔	فتاویٰ نذیریہ:	میاں نذیر حسین دہلوی۔
۴۰۔	حرۃ العینین	فی اثبات رفع الیدین
۴۱۔	کتاب الآثار للامام ابی حنیفہ:	بروایت ابی یوسف القاضی رحمۃ اللہ علیہ۔ بروایت الامام محمد بن حسن الشیبانی۔
۴۲۔	کتاب الام:	ابوعبداللہ محمد بن ادریس الشافعی۔
۴۳۔	کتاب القراءة	ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البہتقی رحمۃ اللہ علیہ۔

۴۴-	کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال:	العلامة علاء الدین علی التمشی بن حسام الدین الہندی رحمۃ اللہ علیہ۔
۴۵-	لغات الحدیث (اردو)	وحید الزماں حیدرآبادی۔
۴۶-	المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث:	ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ المعروف بالحاکم رحمۃ اللہ علیہ۔
۴۷-	مسند ابی یعلیٰ الموصلی:	الحافظ احمد بن علی التمشی التمشی رحمۃ اللہ علیہ۔
۴۸-	مسند:	الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔
۴۹-	المحقق:	ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ۔
۵۰-	المقف:	ابو بکر عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ۔
۵۱-	المغنی:	ابو محمد بن عبد اللہ احمد بن محمد بن قدامہ الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔
۵۲-	نزل الابرار من فقہ النبی المختار:	وحید الزماں حیدرآبادی۔
۵۳-	نووی شرح مسلم:	محمی الدین ابو زکریا عجمی بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ۔
۵۴-	هدیۃ المحدث:	وحید الزماں حیدرآبادی۔
۵۵-	هدی الساری مقدمہ فتح الباری:	احمد بن علی بن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔

ملنے کے مراکز

★ مکتبہ سیفیہ، مرکزی آستانہ عالیہ سیفیہ فقیر آباد شریف لاہور

★ مکتبہ محمدیہ سیفیہ، آستانہ عالیہ محمدیہ سیفیہ راوی ریان شریف لاہور

★ مرکز اسلامی المبارک ملتان روڈ عبدالحکیم

★ بیکن بکس گول باغ گلگشت ملتان

★ رضنا پبلک لائبریری سکول جلال پور چوک شجاع آباد

★ احد کالج آف کامرس لیہ روڈ کوٹ ادو

★ ایم اکبر آئرن سٹور اڈہ بن بوین ملتان

★ آستانہ عالیہ گیلانیہ محمدیہ سیفیہ پرانا ملتان روڈ شجاع آباد

★ المہدک ایسوسی ایٹس F- بلاک مارکیٹ شاہ رکن عالم کالونی ملتان

جامعہ انوار مدینہ محمدیہ سیفیہ کا اندرونی منظر